

227

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# تاریخ الامت

## جلد دوم

(دوسرا ایڈیشن)

## خلافتِ اشرف

علامہ اسلم حیراجپوری

اصح کردہ: ادارہ طلوع اسلام - ۲۵ - بی. گلبرگ - لاہور  
نئے کاپتہ: میزبان پبلیکیشنز لمیٹڈ - ۲۷ - بی. شاہ عالم مارکیٹ - لاہور



الہدیہ - 25 تا 50

نمبر - 132 - 132

صورت راشدہ - 2020

۲۹۵۹  
۱۰۷۰۵  
۷۰۲

# پیش کشی لفظ

تاریخ الامت کے پہلے حصہ کا دوسرا ایڈیشن جو حضور رسالت مآب کی سیرت  
طیبہ پر مشتمل ہے اس سے پہلے شائع کیا جا چکا ہے اب اس کا دوسرا  
حصہ پیش خدمت ہے جس میں خلافت راشدہ کا تذکار جلیلہ آگیا ہے  
اس کا پہلا ایڈیشن بھی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور جلد ختم ہو گیا۔ اب دوسرا  
ایڈیشن شائع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کے بقایا حصے بھی شائع  
ہو چکے ہیں۔ ربیعا التوفیق۔

ناظم ادارہ طلوع اسلام

۲۵ - بی۔ گلبرگ کالونی

فہرستِ مضامین

تاریخ الامت

(حصہ دوم)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳	حیشِ اسامہؓ	۷	انت
۳۷	فتنۃ الرداد	۸	ندانِ خلافت
۴۱	طلیحہ	۱۵	لی انتخاب
۴۳	بنی تمیم و مالک بن نویرہ	۲۵	رت ابو بکرؓ
۴۵	مسلمہ کذاب	۷	بقہ بنی ساعدہ
۴۷	اسود غنی	۲۹	بہ خلافت
۴۸	بحرین اور حطم	۳۰	بہ ابو بکرؓ
۵۱	ظہور عرب	۳۲	لی خلافت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	جلولاء	۵۱	ایران
	آبادی کوٹہ	۵۳	روم
	جزیرہ	۵۵	جنگ ایران
	فتح ابواز	۶۵	جنگ روم
	فارس پر حملہ	۶۶	نظام داخلی
	راہرمز دستر	۷۴	خلیفہ کا گزارہ
	نہادند	۷۵	بیت ابوبکرؓ
	عام پیش قدمی	"	وفات
	اصفہان	۷۶	فضائل ابوبکرؓ
	آذربے جان	۷۷	حضرت عمرؓ
	باب	۷۹	ترجمہ عمرؓ
	خراسان	۸۱	خطبہ خلافت
	دیگر فتوحات	۸۲	فتوحات
	شام	"	ایران
	دمشق	۸۹	قادسیہ
	مرج روم	۱۰۰	مدائن

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۷	مناقب علیؑ	۱۸۹	حوالہ محمد عثمانؑ
۲۲۹	اسباب مخالفت	۱۹۱	حضرت علیؑ
۲۵۴	اہم حقائق	۱۹۲	انتخاب
"	خلافت راشدہ میں ہدایت	۱۹۳	ترجمہ علیؑ
۲۵۶	اسلام	۱۹۴	خطبہ خلافت
"	خلافت	۱۹۵	پہلا کام
۲۵۹	صیغہ تصاف	۱۹۸	شورشِ عام
۲۶۳	زوج	۲۰۴	واقعہ جمل
۲۶۶	حاصل	۲۱۱	جنگ صفین
۲۶۸	نماز	۲۲۲	ثالثی نامہ
"	حج	۲۲۵	خوارج
۲۶۹	رفادہ عام	۲۲۹	فیصلہ ثالثی
۲۷۰	تعلیم	۲۳۴	بیچہ فیصلہ
۲۷۲	سکر	۲۳۳	ابن ابی عمیر
"	اشاعت اسلام	۲۴۵	قتل
"	.....	۲۴۶	بیت علیؑ

# تاریخ الامت

(حصہ دوم)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## خلافت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے متعلق دو قسم کے فرائض تھے۔  
(۱) رسالت کے فرائض یعنی احکام الہی کی تبلیغ جس کے لئے آپ منجانب اللہ  
مامور تھے۔

(۲) امت کے فرائض یعنی نظام مکت کی شیرازہ بندی۔ امت کے تنازعات  
کا فیصلہ جنگ اور صلح میں اس کی قائم مقامی وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ مہبط وحی اور ہادی  
شرع کے ہوتے ہوئے دوسرا کون امام ہو سکتا تھا۔

ان دونوں فرائض میں سے پہلا فرض آپ کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا کیونکہ  
نبوت کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد کسی کو یہ حق نہیں رہا کہ شرع میں ایک ذرہ

بھی اضافہ کر سکے۔ بجز اس کے کہ انہیں اصول اور قواعد سے جو شریعت کے ہیں  
مسائل کا استنباط کرے۔ یہ کام علماء اور فقہا امت کے حصہ میں آیا اس کا نام اگر ہم  
خلافتِ شرعی رکھیں تو بے جا نہ ہوگا۔

دوسرا فرض یعنی انتظام و تدبیر نہایت ملی بدستور باقی رہا۔ تمدنی حیثیت سے امت  
کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ آنحضرتؐ کے بجائے کسی کو اپنا مرکز قرار دے  
کہ وہ اس فرض کو ادا کرے۔

یہ مسئلہ خلافتِ شرعی سے لے کر آج تک امت میں جتنا معرکہ الازار و مختلف  
فیہ رہا ہے۔ اتنا کوئی دوسرا مسئلہ نہیں رہا۔ لہذا مختصراً اسکی تاریخ بیان کرنا ضروری ہو۔  
تمام بحثوں اور اختلافوں کا دار و مدار صرف دو باتوں پر ہے۔

(۱) خلیفہ کس خاندان سے ہو۔

(۲) خلیفہ کے انتخاب کی شکل کیا ہو۔

قرآن مجید میں مطلقاً اس کا ذکر نہیں کہ خلیفہ کس خاندان

اور قبیلے سے ہو۔ لیکن حدیث میں روایت ہے کہ

الْأئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

امام قریش میں سے ہوں گے

اسی کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ تمہارے اوپر اگر کوئی ادنیٰ وحشی غلام بھی

حکمران ہو جائے تو تم اس کو فرمانبرداری کرو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ صحابہ میں دو مختلف خیال  
جماعتیں نظر آنے لگیں۔

۱) خلافت کسی قبیلہ سے مخصوص نہیں ہے۔

۲) قریش کے ساتھ مخصوص ہے یعنی اس کے جتنے قبائل ہیں ہر ایک میں سے

خلیفہ ہو سکتا ہے۔

اس دوسرے خیال کے گردہ میں بعض لوگ قریشی ہونے کے ساتھ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت قریبہ رکھنے والے کو مر ج سمجھتے تھے۔

آنحضرتؐ کی وفات کے وقت نسباً آپ کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار

حضرت عباسؓ تھے۔ ان کے بعد ابوطالب کے دونوں بیٹے یعنی حضرت علیؓ اور

عقیل رضی اللہ عنہما۔

ان میں سے حضرت علیؓ کو یہ امتیاز تھا کہ وہ سابقین اولین میں سے تھے اور

تمام عذرات میں آنحضرتؐ کے ساتھ رہے۔ نیز حضرت فاطمہؓ زہراؓ ریحانہ رسول ان

کی زوجیت میں تھیں اور حضرت عباسؓ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ اگر حق و راست

ہوتا تو وہی آنحضرتؐ کے عصبہ ہو سکتے تھے۔

پہلا خیال یعنی عدم تخصیص کی رائے انصار کی تھی جو چاہتے تھے کہ خود اپنے

قبائل ہی میں سے کسی کو آنحضرتؐ کا قائم مقام منتخب کریں وہ کہتے تھے کہ ہم نے

اسلام کی خدمت کی۔ ہمارے سرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور آنحضرتؐ کی



امداد میں جان و مال اور اولاد کو بے دریغ صرف کیا۔ لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم میں سے خلیفہ ہو۔

دوسرا خیال یعنی خلافت کی تخصیص قریش کے ساتھ جمہور کا تھا۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے "الائمۃ من قریش" مجمع عام میں نسر دیا جس کے سامنے سب کی گردنیں جھک گئیں۔

قربت قریبہ کی تخصیص حضرت علیؓ اور ان کے طرفداروں کی رائے تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اپنے حق کو غالب سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے خود حبیب اپنی بیعت کے متعلق حضرت ابوبکرؓ سے گفتگو کی تو اس خیال کو بھی ظاہر کیا۔ لیکن چونکہ اس وقت بالاتفاق صحابہؓ حضرت ابوبکرؓ کا انتخاب عمل میں آگیا تھا اس لئے جمہور کی مخالفت نہیں کی۔

یہ رائے اگرچہ اس وقت تو دہ گئی۔ لیکن حضرت عثمانؓ کے عہد میں پھر ابھر آئی۔ جا بجا اسلامی مرکزوں میں اس کے محرک پیدا ہو گئے۔ جن کا سرغنہ عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے عوام کو برا بکھرا کر نام شروع کیا کہ یہ کہاں سے روا ہے کہ رسالت کا قریبی رشتہ دار محروم رہے اور دوسرے لوگ خلیفہ بنائے جائیں۔

اس تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمانؓ کو اطراف و دیار سے اس خیال کے لوگوں نے جمع ہو کر مدینہ میں قتل کر ڈالا اور حضرت علیؓ کو خلیفہ بنا دیا۔ لیکن ان کو سخت دشواری کا سامنا ہوا۔ کیونکہ امت کا تقریباً نصف حصہ

جو اس تحریک کے اثر سے پاک تھا۔ ملک شام سے آکر ان کے مقابلے کے لئے کھڑا ہو گیا۔ بہت قتل و خونریزی کے بعد آخر پھر عدم تخصیص قرابت کی رائے غالب آئی۔ اور امیر معاویہ بن ابی سفیان جو بنی ہاشم سے بھی نہ تھے خلیفہ ہو گئے۔

گو قوت اور سیاست کے زور سے خلافت بنی امیہ کے ہاتھ میں آگئی۔ اور تخصیص قرابت کی تحریک بظاہر دب گئی لیکن اس جماعت کے لوگوں کے دلوں میں یہ مادہ اس طرح اندر ہی اندر جوش مارتا رہا کہ آئندہ جب کبھی کوئی برق امید چمکی تو بھرک اٹھا۔

حضرت علیؓ کی اولاد بھی تھی کہ خلافت ہمارا حق ہے جو کوئی اس کو ہم سے چھینے وہ ظالم اور غاصب ہے اور ان کے شیعہ اس آرزو میں رہتے تھے کہ وہ کسی طرح اپنے اس حق کو پا جائیں اس لئے یکے بعد دیگرے ان کو خلفائے وقت کے مقابلے کے لئے اٹھاتے رہتے تھے اور نتیجہ سوائے قتل و عذاب اور تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔

مگر اس سختی سے ان کے دلوں میں کینہ کا جوش اور بھرکتا تھا۔ وہ ان مظالم کو بیان کر کر کے لوگوں کو بنی امیہ کے خلاف برا بھلا کہتے تھے۔ انہوں نے زیادہ تر فائدہ کر بلا سے اس میں بردلی۔ درد انگیز اشعار میں امام حسین اور ان کے قافلہ کی مصیبت، پیاس کی تکلیف اور شدت اور اہل بیت کی گرفتاری کا حال لوگوں کو سناتا کہ ان کے دلوں میں رقت پیدا کرتے تھے کہ لوگ بنی امیہ سے متنفر ہو کر

ہو کر اس کو شش میں ان کا ساتھ دیں کہ خلافت ان لوگوں کو دلائی جا سکے جو اس کے مستحق ہیں۔

ادھر بنی عباس بھی اپنے کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت علیؓ کی اولاد کے مقابلے میں ان کو کون خاطر میں لاسکتا تھا۔

جس وقت ابوالہشتم بن محمد بن علی نے وفات پائی اور اپنا کوئی جانشین نہیں چھوڑا اس وقت بنی عباس نے کہا کہ وہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو اپنا جانشین بنا گئے ہیں اس بنا پر شیعوں کے ایک فرقہ کیساتھ بنی عباس کا ساتھ دے دیا۔ اب بنی عباس نے یہ دعویٰ بھی کرنا شروع کیا کہ حضرت عباسؓ بنی عباسی علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی موجودگی میں حضرت علیؓ کو جو چپلے کی بیٹے تھے حق وراثت نہیں پہنچ سکتا۔

بنی عباس نے اس تحریک کو نہایت ہوشیاری کے ساتھ اہمیت میں پھیلانا شروع کیا۔ ان کے خاص دعاوتھے جو بڑی ہمارت کے ساتھ مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لیتے پھرتے تھے۔ آخر میں سب سے بڑھ کر ان کو ابوسلم خراسانی بل گیا جس نے بنی امیہ کے تختِ خلافت کو الٹ کر عباسی خلافت قائم کر دی۔

عباسیوں کے عہد میں حضرت علیؓ کی اولاد پر اس سے بھی زیادہ مصیبت آئی جس قدر ان کے مخالفین بنی امیہ کے عہد میں تھی ان کے درباروں میں کسی شخص کے اوپر اس تہمت کا لگ جانا کہ وہ اہل بیت کے کسی فرد کی طرف



میلان رکھتا ہے اس کے اطلاقِ نفس اور ضبطی جہاد کے لئے کافی ہوتا تھا۔ خاص کر منصور ہارون اور متوکل کے عہد میں۔ چنانچہ بعض بعض امراء، وزراء اور علماء کے ساتھ عکاسی وقوع میں آیا۔

لیکن یہ تمام سختیاں شیعہ کے اس خیال کو مٹانہ سکیں کہ صرف ائمہ ہی اہل بیت ہی خلافت کے حقدار ہیں اور اس وقت عنانِ خلافت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ ظالم اور غاصب ہیں۔ چنانچہ بنی امیہ کی طرح وقتاً فوقتاً بنی عباس کے مقابلہ میں بھی ان میں سے لوگ اٹھتے رہے اور نتیجہ وہی تھا ہی وہ بریادی ہوتا رہا۔

اس تشدد اور مصیبت میں اہل بیت کے بعض افراد کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دورِ دست ممالک میں بھل جائیں تاکہ عباسیوں کے دسترس سے باہر رہ کر ان کے قابو میں نہ آسکیں۔ چنانچہ پہلے ان کے دعاۃ اور پھر وہ خود افریقہ میں چلے گئے۔ اور وہاں انہوں نے ادربی سلطنت اور کھپہ فاطمی خلافت قائم کی۔

دعویدارانِ خلافت کی اس باہمی کشمکش سے نظامِ ملت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اور بجائے اس کے کہ تمام امت کی ایک خلافت ہوتی ایک ہی زبانہ میں تین خلیفتیں قائم ہو گئیں جو ایک دوسرے کی حریف تھیں۔

(۱) بغداد کی خلافت عباسیہ۔

(۲) قاہرہ کی خلافتِ فاطمیہ۔

(۳) اندلس کی خلافتِ امویہ۔

گو افریقہ میں فاطمی خلافت قائم ہو جانے کے بعد حضرت علیؑ کی اولاد جو مشرق میں رہ گئی تھی خاموش ہو گئی۔ اور ان میں سے کوئی خلفاء عباسیہ کے مقابلہ کے لئے نہیں اٹھا۔ لیکن اندر دنی طور پر وہ اور ان کے شیعہ اس خلافت کے اسی طرح مخالف رہے جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ آخر میں جہاں عباسی خلافت کی تباہی کے بہت سے اسباب ہوئے۔ وہاں ایک سبب یہ ہوا کہ خلیفہ مستعصم باللہ کے وزیر ابن ہلیم نے جو ایک عالی شیعہ تھا۔ ہلاکو کو بغداد میں بلایا اور اس کے آنے میں مدد دی۔

خلافت بغداد کی تباہی کے بعد ایک شخص سید احمد جو اپنے آپ کو عباسی کہتا تھا کھنک کر مصر چلا گیا۔ وہاں فاطمیوں کی خلافت میٹ چکی تھی سلطان مصر الظاہر بابر نے اسے بند قداری نے اسی کو خلیفہ بنا کر اپنے لئے اس سے حکومت کا عہد لے لیا۔

ایک مدت تک مصر میں انھیں بقایا بے بنی عباس میں سے وظیفہ خوار خلفاء ہوتے رہے جن کا عزل و نصب خود وہاں کے شہنشاہوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔

۲۳۳ھ میں جب سلطان سلیم نے مصر پر قبضہ کیا تو وہاں کی حکومت کے

ساتھ خلافت بھی عثمانیوں کے ہاتھ میں آگئی۔

قرآن مجید میں خلیفہ کے انتخاب کی کوئی شکل صریحی طور پر  
**شکل انتخاب** نہیں بتائی گئی ہے۔ بعض عام احکام ہیں جو خلافت اور

غیر خلافت دونوں کو شامل ہیں۔

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

وہ باہمی مشورہ سے اپنا کام کرتے ہیں

حدیثوں میں بھی اس کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کا نظام خود امت پر چھوڑ دیا  
 ہے کہ زمانہ اور ضرورت کے لحاظ سے اپنے لئے جو طریقہ مناسب سمجھے اس کے مطابق عمل  
 درآمد کرے ورنہ نماز اور وضو وغیرہ دیگر مسائل کی طرح اسکی بھی تصریح کر دی ہوتی۔

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ امت نے اس مسئلہ انتخاب میں کیا رویہ اختیار کیا۔

۱) پہلا طریقہ انتخاب وہ تھا جو حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے موقع پر پیش  
 آیا کہ رؤسائے امت سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور بحثوں اور تقریروں کے  
 بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لیکن یہاں صورت یہ تھی کہ سوائے بن عبادہ کے  
 جو رئیس الانصار تھے قریش میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کرتا تھا۔ اور حضرت  
 ابو بکرؓ کی ذات صحابہ میں اس قدر ممتاز تھی کہ ان کی فضیلت کے سب  
 لوگ معترف تھے چنانچہ باوجود اس کے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ عمر بن خطابؓ



یا ابو عبیدہ دونوں میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ لیکن خود حضرت عمرؓ اور ان کے بعد اور سب لوگوں نے انہیں کے ہاتھ پر بیعت کی۔

(۲) دوسرا طریقہ حضرت عمرؓ کے انتخاب کا تھا کہ حضرت ابو بکرؓ نے لوگوں سے مشورہ لے کر ان کی ولی عہدی کا فرمان لکھوا دیا۔

(۳) تیسرا طریقہ وہ تھا جو حضرت عثمانؓ کے انتخاب کے موقع پر عمل میں آیا۔ یعنی جب حضرت عمرؓ کو اپنی موت کا احساس ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اگر میں امت کو بلا خلیفہ کے چھوڑ جاتا ہوں تو ممکن ہے کہ اس میں اختلاف پیدا ہو جائے اس لئے چاہا کہ کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیں۔ مگر ان کی نگاہ میں کوئی ایسا شخص نہ تھا کہ اس کو خلیفہ بنا کر ان کا دل مطمئن ہو جائے اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ زندگی کی طرح موت کے بعد بھی امور امت کی ذمہ داری اپنے سر لیں، اس لئے بڑے بڑے چھ صحابہ کو جو ان کی رائے میں خلافت کے مستحق تھے نامزد کیا اور یہ حکم دیا کہ میری موت کے بعد یہ لوگ جمع ہو کر تین دن کے اندر اندر خود اپنے میں کسی کو خلیفہ بنالیں۔

اس انتخاب سے غرض یہ تھی کہ جو لوگ خلافت کے دعویدار ہو سکتے ہیں وہ سب ایک رائے پر متفق ہو جائیں تاکہ امت میں نزاع نہ پیدا ہو۔

ان تینوں طریقوں میں سے پہلے طریقے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حق انتخاب کن لوگوں کو حاصل ہے۔ ساری امت کو یا مخصوص افراد کو۔ پھر وہ مخصوص افراد کو

لوگ ہیں۔ عمال سلطنت امراء لشکر یا روسا سلطنت؛ اس لئے خلافت کے دعویٰ دار کو تاویل کا بہت موقع مل سکتا ہے؛

دوسرے طریقہ میں اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ خلیفہ ایسے ہی شخص کو منتخب کرے جو واقعی خلافت کے قابل ہو۔ کیونکہ حضرت ابو بکرؓ کی طرح ہر ایک خلیفہ کو ولی عہدی کے لئے عمر فرا تو نہیں مل سکتے۔

تیسرے طریقہ میں تقریباً دوسرے ہی طریقہ کی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے میں ایک شخص معین ہے۔ دوسرے میں چند محدود افراد میں سے ایک شخص غیر معین۔

چنانچہ جب حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو اختلاف رونما ہوا ان کے نزدیک اہل مدینہ کی بیعت ان کی خلافت کے انعقاد کے لئے کافی تھی۔ لیکن امیر معاویہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا وہ تمام امت خاص کر اعیان قریش و امراء لشکر و اہل بیان صوبجات کی شرکت اس میں ضروری سمجھتے تھے۔

آخر کار دونوں قوتیں صفین کے میدان میں آکر ٹکرائیں اور جب لڑائی منے فریقین کو خستہ کر دیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کیا کہ وہ اس معاملہ کا تصفیہ قرآن کی روش سے کریں۔

اس کا نتیجہ اصلت کے حق میں ادر بر بنا ہوا کیونکہ اس سے ایک تیسرا گروہ نوارج کا پیدا ہو گیا جو سابقہ دونوں جماعتوں کے خلاف تھا اس کا علی الاعلان پیکار کرنے

لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ۔ اور خود اپنی الگ ایک جماعت بنالی اور اپنے تمام مخالفین  
کو کفار قرار دے کر ان کی جان و مال کو حلال سمجھنے لگے اور ایک جہادِ عام  
شروع کر دیا۔

چونکہ انھوں نے اپنے لئے خاص اصول اور حدود مقرر نہیں کئے تھے نتیجہ یہ ہوا  
کہ ان میں بھی باہم مخالفتیں پیدا ہوئیں اور ان کے متعدد فرقے بن گئے۔ امت اپنی  
قوت کے ساتھ ان کی شورشوں کے مقابلہ کے لئے تیار ہوئی اور آخر بڑی بڑی خونریز  
جنگوں کے بعد بلا اس محکمے کے ان سے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچا یا وہ خود کوئی نفع  
اٹھاتے تباہ و برباد ہو گئے۔

حضرت علیؓ کے بعد امیر معاویہؓ خلیفہ ہوئے انھیں سے بنی امیہ کی  
خلافت شروع ہوئی۔ بنی امیہ نے دلی عہدی کا وہی دستور رکھا جس پر حضرت  
ابوبکرؓ نے عمل کیا تھا۔ لیکن فرقہ یہ تھا کہ انھوں نے حضرت عمرؓ کو اپنا دلی عہد  
بنایا تھا چونکہ ان کے ہم قبیلہ تھے اور نہ رشتہ دار اور بنی امیہ اپنے قرابت مندوں  
اور بیشتر اپنے بیٹوں کو دلی عہد بناتے رہے۔ بلکہ کبھی کبھی ایک کے بجائے دو کے بعد  
دیگرے دو دلی عہد مقرر کرتے تھے جو اگر بھی نساد کا موجب ہوتا تھا۔  
اس طرز انتخاب سے خلافت کی جمہوریت منٹ گئی اور وہ بھی ایک قسم  
کی خانہ داری سلطنت ہو گئی۔

بنی امیہ کے بعد بنی عباس میں دلی عہدی کا دستور ہی رہا۔ لیکن معصوم



کے بورے سے یہ بھی مفقود ہو گیا۔ کیونکہ خلیفہ اپنے عجمی غلاموں کے ہاتھوں میں اس قدر بے بس ہوتا تھا کہ اکثر تختِ خلافت سے تبر کے تختے کے نیچے پہنچا دیا جاتا تھا اور پھر وہی نام کے اہل حل و عقد جمع ہو کر جس کو چاہتے تھے خلیفہ بنا لیتے تھے۔

محمد کے عہد میں یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ خلیفہ کو ادنیٰ ادنیٰ ضروریات کی چیزیں بھی مشکل سے میسر ہوتی تھیں اور متقی اور مستکفی کے عہد میں جب آل بویہ کا تسلط ہو گیا تو خلیفہ عباسی صرف ایک بی بی رہ گیا۔ اس کی ملکی اور سیاسی حیثیت بجز اس کے کہ خطروں میں اس کا نام پکارا جاتا تھا باقی نہیں رہی تھی۔ اگر جمہور کا یہ اعتقاد نہ ہوتا کہ خلافت صرف قریش کا حق ہے تو یہ نام کی خلافت بھی نبی عباس کے ہاتھوں میں باقی نہ رہ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ بغداد کی تباہی کے بعد سلطان مصر نے خود خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ بغداد سے بھاگ کر جو شخص اس کے ہاں گیا تھا اسی کو عباسی خاندان کا نائب کر کے خلیفہ بنا لیا۔ تاکہ خلافت کے سایہ میں اس کی سلطنت کو مذہبی اور مرکزی عظمت حاصل ہو جائے۔

۹۲۳ء میں فتح مصر کے بعد خلافت عثمانی خاندان میں آگئی۔ اگرچہ آل عثمان میں نظامِ ولی عہدی یہ تھا کہ خاندان کا بڑا شخص تخت نشین ہو۔ لیکن پھر بھی اکثر تخت نشینی میں مشورہ شیں ہوتی رہی ہیں اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ سلطان جب تخت پر بیٹھا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوا ہے کہ اپنے صحابوں کو قتل کراوے۔ تاکہ

سلطنت کا کوئی دعویٰ باقی نہ رہ جائے۔

شیعہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ امامت صرف حضرت علیؑ کی اولاد کا حق ہے۔ ان میں سے فرقہ اثنا عشریہ امام کے بڑے بیٹے کو امام قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں اماموں کی ترتیب اسی طرح پر ہے۔ دوسرے فرقے ان سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن یہاں ہم کو ان اختلافات کا بیان کرنا مد نظر نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت بھی کوئی متفقہ شکل اسکی متعین نہ کر سکی۔

مسکلمین نے عہد عباسی میں مسأخلافات و امامت کو عقائد میں داخل کیا اور اس پر بحثیں شروع کیں۔ یہ مدار بحث مندرجہ ذیل امور ہیں۔

۱۔ کیا امام کا نصب کرنا امت کا فرض ہے؟ اور پھر یہ روایتاً ہے یا عقلاً  
 ۲۔ ہر دو طریق پر۔ پہلا مذہب جمہور کا ہے۔ دوسرا زیدیہ اور اکثر معتزلہ کا۔  
 تیسرا بعض معتزلہ کا۔

۲۔ یا خود اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ امام کو نصب فرمائے۔

یہ مذہب امامیہ اور اسمعیلیہ کا ہے۔ فرقہ دونوں میں یہ ہے کہ امامیہ کے امام کی ضرورت اس لئے ہے کہ قوانین شرع کی حفاظت کرے اور اسماعیلیہ کے عقیدہ میں وہ ذات و صفات الہی کا معرفت ہوتا ہے۔

۳۔ امام کی مطلق ضرورت نہیں۔

یہ مذہب خوارج کا ہے لیکن ہشام اور اس کے ہم خیال یہ کہتے ہیں کہ

کے وقت امام کی ضرورت ہے بے امنی کے زمانہ میں نہیں۔ اور اہم اور اس کے ہم ہر کے  
اس کے برعکس فتنہ کے زمانہ میں امام کی ضرورت تسلیم کرتے ہیں۔ امن کی حالت میں  
اس کا وجود غیر ضروری ہے۔

(۳) امام کے لئے کیا شرائط ہیں۔

بعض شرطوں میں کسی کو اختلافات نہیں۔ لیکن بعض مختلف ذمہ ہیں۔ مثلاً جمہور کے نزدیک  
شرعی ہونا شرط ہے۔ شیعوں کے نزدیک اہم ہونا ضروری ہے۔ اور نیز یہ کہ وہ دین کے  
کل مسائل کا علم رکھتا ہو۔ اور بعض شیعہ یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی  
معجزہ کا ظہور ہو۔

(۵) امامت کس چیز سے ثابت ہوتی ہے۔

شیعوں کے نزدیک آنحضرت یا امام موجود کی نص صریح ہونی چاہیے جمہور کے نزدیک  
اہل حل و عقد کا اجماع بعضوں کے نزدیک صرف مسلمانوں کا اتفاق کافی ہے۔

(۶) کیا ایک وقت میں کئی امام ہو سکتے ہیں۔

(۷) امام برحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکرؓ یا حضرت علیؓ؟

(۸) آنحضرتؐ کے بعد سے افضل کون ہے؟

(۹) کیا نافع کے ہوتے ہوئے مفسول کی امامت جائز ہے؟

یہ بحثیں مدرسہ کی بحثیں تھیں جن میں اگرچہ علیؓ بحفاظت سے بعض باتیں لطیف

تھیں لیکن علیؓ حیثیت سے بیکار ثابت ہوئیں۔ کیونکہ ہر فرقہ نے اس کو اپنے عقائد

کا ایک مسئلہ قرار دیا۔ حالانکہ یہ سیاستِ ملیہ کا مسئلہ تھا جو جمہوری ہے اور فرقہ بندی کی دسترس سے بالاتر۔

قرن صحابہ کا عملدرآمد جو امت کے لئے اصلی نمونہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خلافت خاندانی نہیں جمہوری ہے اور یہ کہ خلافت کے انتخاب میں امت کا مشورہ ضروری ہے۔

خلافتِ راشدہ میں خلفاء اربعہ مختلف خاندان کے تھے اور گوان کے انتخاب کو شکلیں جدا گانہ تھیں لیکن ہر ایک میں شوری جو جمہوریت کی اصل روح ہے موجود تھی۔ امدان کی حکومت کا طریقہ بھی جمہوری تھا۔ اسی خلافت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح روایت موجود ہے۔

الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سِنَةً ثُمَّ مَلِكٌ بَعْدَ ذَلِكَ  
میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی پھر سلطنت ہو جائے گی  
قبیلہ قریش کی تخصیص جو حضرت ابوبکر نے بیان کی تھی وہ صرف بطور ایک پیشگی  
کے تھی چنانچہ انہوں نے خود اس مجمع میں اس تخصیص کا سبب یہ ظاہر کیا کہ انصاف  
میں سے اگر قبیلہ ادس کا کوئی شخص خلیفہ ہو جائے گا تو خزانہ رشک کریں گے  
خزانہ کا ہوجائے گا تو اہل عرب بجز قریش کے اور کسی کی خلافت کو تسلیم  
نہیں کریں گے۔

۱۰۷

اس ترجمہ سے علامہ ابن خلدون نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ خلافت کے



قریش کی تخصیص کا اصلی راز یہی تھا کہ وہ عرب کے تمام قبائل میں محترم اور قوی تر تھے اگر ان میں سے کوئی خلیفہ ہوگا تو بوجہ اس کی عظمت اور اس کے حامیوں کی قوت اور شوکت کے کوئی شخص اس کی مخالفت کی جرأت نہیں کرے گا۔ اسی بنا پر وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آجائے کہ اس میں قریش کی عظمت اور عصیبت باقی نہ رہے اور وہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ اسلام کی حمایت اور اس پر جو حملے ہوں اس کی مدافعت نہ کر سکے تو اس زمانہ میں ممکن ہوگا کہ خلافت غیر قریش میں جو طاقت اور شوکت رکھتے ہوں منتقل کر دی جائے کیونکہ امور شریعت اسباب اور مصلح پر مبنی ہیں اور ان کا لحاظ رکھنا ہر زمانہ میں ضروری ہے۔

لیکن علامہ موصوف نے اسلامی جمہوریت کے صحیح مفہوم کو پیش نظر نہیں رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ اسلام کے لئے کسی قومی اور خاندانی عصیبت کی احتیاج ہی نہیں ہے بلکہ تمام امت اس کی قوم اور اس کی حامی ہوتی ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ غلام بھی تمہارا امیر بنایا جائے تو اس کی اطاعت کرو بخود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب دلی عہد مقرر کرنے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آج ابو خدیفہ کا غلام سالم زندہ ہوتا تو میں اس کو اپنا جانشین بنا دیتا۔ حالانکہ غلاموں کا کون سا خاندان ہوتا ہے اور کہاں عصیبت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فادق اعظم خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔

اسلام نے ہر قسم کے جسی مفاخر کو مٹا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف

✓ فرما دیا ہے کہ بزرگی کا مدار نسب پر نہیں ہے بلکہ تقویٰ پر ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ خلافت کی تخصیص کسی ایک قبیلے سے اسلام جائز رکھے اور جس سبت کو وہ توڑنے کے لئے آیا اسی سبت کو پھر نصب کرے قریش کی خلافت کی جو روایات ہیں ان میں صرف ان خلفاء کی پیشینگوئی ہے جو قریش میں ہوئے ورنہ تمہارے حکم اور خلافت اسلامیہ قطعاً جمہوری ہے۔ کیونکہ کل مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں۔

## حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

مدینہ کے انصار دو شعبوں میں منقسم تھے۔ اوس اور خزرج۔  
سقیفہ بنی ساعدہ ان میں سے خزرج کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کے رئیس  
 سعد بن عبادہ تھے جن کا مکان مدینہ کے بازار کے قریب تھا۔ اسی کے متصل شہت  
 کے لئے ایک سائبان بنا ہوا تھا جس کو سقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں۔  
 جب سرور عالم کی وفات کا اعلان ہوا اور سائے انصار اسی سقیفہ میں  
 جمع ہوئے وہ چاہتے تھے کہ اپنے قبائل میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کریں۔ ان کا  
 رجحان طبع سعید بن عبادہ کے انتخاب کی طرف تھا۔  
 حضرت سعد نے اس مجمع میں انصار کی خدمتِ اسلام بیان کر کے کہا کہ  
 خلافتِ رسول بجز انصار کے اور کسی کا حق نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اس معاملہ  
 میں کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ مجمع سے آواز آئی کہ تم نے جو کچھ کہا درست  
 اور سچا ہے۔

ایک انصار نے کہا کہ اگر ہاجرین اس کو نہ مانیں اور کہیں کہ ہم پیغمبر کے ہم قبیلہ

اور ہم خاندان ہیں تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا۔ اس پر ایک دوسرے انصاری نے کہا کہ اگر وہ تسلیم نہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ایک امیر تم میں سے اور ایک امیر ہم میں سے ہو اور اس سے کم پر کسی طرح راضی نہ ہوں گے حضرت سعد نے اسے سن کر کہا کہ یہ پہلی کمزوری ہے یہ لوگ اسی قبیل و قال میں تھے کہ یہ خبر بہت باجرین میں پہنچی، وہ لوگ عجلت کے ساتھ ستیفہ میں آگے حضرت عمرؓ چاہتے تھے کہ کچھ کہیں لیکن حضرت ابو بکرؓ نے ان کو روک دیا اور خود وقار اور سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہو کر تقریر فرمائی پہلے ہاجرین کی تاریخ اور ان کی فضیلت بیان کی اور جو جو مصائب اور تکالیف راہِ دین میں ان کو برداشت کرنی پڑیں ان کا ذکر کیا۔ پھر انصار کے فائز اور خدماتِ اسلام کو گنایا۔ اور ان کا ایک ایک کا نامہ پیش کر کے ان کی مدح و ثنا کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ

الائمة من قریش  
امام قریش سے ہوں گے

ہم امیر ہوں اور تم وزیر۔ بلا تمہارے مشورے کے معاملات طے نہیں کئے جائیں گے جب ان کی تقریر ختم ہو چکی تو انصار میں سے حباب بن منذر خزرجی کھڑے ہوئے اور کہا کہ

اے جماعتِ انصار! خلافت کو تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ یہ سب لوگ  
تمہاری حمایت میں ہیں۔ کسی کو یہ جرأت نہیں کہ تمہاری مخالفت کر سکے۔



تم اہل ثروت اور جنگ آور ہو۔ تمہاری تعداد اور قوت زیادہ ہے سب  
 کی نگاہیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے  
 رائے کرور ہو جائے گی اور مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو گے اگر ہاجرین کو انکار  
 ہے تو ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک ان میں سے۔

اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ بھلا ایک ساتھ دو امیر کیوں ہو سکتے ہیں۔ کچھ اور  
 گفتگو کرنے کے بعد جناب پھر کھڑے ہوئے اور انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ۔  
 ان لوگوں کی باتیں تم ہرگز نہ مانو۔ ورنہ یہ امامت تم سے چھین لیں گے۔  
 اس پر حضرت عمرؓ اور جنابؓ میں سخت کلامی ہونے لگی حضرت ابو عبیدہ  
 بن الجراحؓ نے کہا کہ۔

یا معشر الانصار! سب سے پہلے دین اسلام کی نصرت تم نے کی اب اس کی  
 تخریب میں تم کو سبقت نہیں کرنی چاہیے۔

یسنکر بشیر بن سعد انصاری جو خزرج کے قبیلہ بنی زید بن مالک میں سے تھے  
 کھڑے ہوئے اور کہا کہ۔

اے انصار! ہم نے جو شکرین سے جہاد کرنے کی نصیحت اور دین میں سبقت  
 حاصل کی وہ نبی کی اطاعت اور رضائے رب کے لئے تھی۔ یہ مناسب نہیں کہ  
 اس کے سبب سے لوگوں پر ہم اپنا حق جنائیں۔ اور مستلح دنیا کے خواہاں ہوں  
 ہم کو ان کا جس دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھو! محمد صلی اللہ علیہ وسلم

تشریش میں سے تھے۔ ان کی خلافت کی زیادہ مستحق خود  
ان کی قوم ہو سکتی ہے اس لئے تم لوگ اللہ کا خوف کرو اور  
مخالفت سے باز آ جاؤ۔

اس تقریر کے ختم ہو جانے پر انصار خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ  
عمرؓ اور ابو عبیدہؓ موجود ہیں ان میں سے جس کو تم لوگ پسند کرو اس کے ہاتھ پر  
بیعت کر لو۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ :-

آپ ہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ غار میں رسول اللہ کے  
رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے۔ اور نماز وہ شے ہے  
جو امر دین میں سب سے افضل ہے ایسا کون شخص ہے جو آپ پر  
مقدم ہو اور آپ کے ہوتے ہوئے خلافت کا متولی بنے۔

یہ کہہ کر حضرت عمرؓ بڑھے اور صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی پھر ابو عبیدہؓ اور بشیر  
بن سعدؓ نے۔ جب یہ خبر باہر پہنچی تو لوگ دوڑے اور بیعت کی۔ حضرت علیؓ اور چند  
دیگر صحابہؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے خلافت کی  
اس بیعت میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت علیؓ نے اس کے بعد بھی چھ ماہ تک بیعت  
نہیں کی جب حضرت فاطمہؓ کا انتقال ہو گیا تو انھوں نے حضرت ابو بکرؓ کو اپنے مکان پر  
بلایا اور کہا کہ آپ کی فضیلت اور استحقاق خلافت سے ہم کو انکار نہیں ہے لیکن جو  
رسول اللہ کی قرابت کے ہم اس کو اپنا حق سمجھتے تھے۔

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک  
مجھے اپنے قرابت مندوں کی بہ نسبت زیادہ عزیز ہے اس کے بعد حضرت علیؓ نے مسجد  
میں آکر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

سقیفہ بنی ساعدہ کی بیعت کے بعد دوسرے روز مسجد نبوی

**خطبہ خلافت** میں بیعت عامہ ہوئی اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ :-

لوگو! قسم ہے اللہ کی کہ میں امامت کا کبھی خواہاں تھا نہ اس کی طرف

مجھے رغبت تھی۔ اور نہ میں نے کبھی پہناں یا آشکارا اللہ تعالیٰ سے اس

کے لئے دعا کی۔ لیکن مجھے خوف ہوا کہ کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے۔

اس لئے اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا اور نہ مجھے امارت میں کوئی

راحت نہیں۔ بلکہ یہ ایک ایسا بار بوجھ پر ڈالا گیا ہے جس کے برداشت

کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا۔ اور بلا امداد الہی اس سے

عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ اس آج میرے بچکے کوئی ایسا شخص

ہوتا جو اس بوجھ کے اٹھانے کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے

تمہ نے اپنا امیر بنایا حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں اگر اچھا کام کروں تو

مجھے مدد دو اور اگر غلطی کروں تو اصلاح کرو۔

تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے۔ یہاں تک کہ

اس کا حق دلو اور اس میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔

یہاں تک کہ اس سے حق لے لوں۔ جب تک میں اللہ اور رسول  
کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو اور اگر ان کے خلاف چلوں  
تو میرا ساتھ چھوڑ دو۔

ان کا نام جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا اسلام لانے کے بعد  
ترجمت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے اس کو بدل کر عبد اللہ کر دیا۔ صدیق اور عتیق

لقب ہیں اور ابو بکر کنیت ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ باپ کا نام ابو قحافہ تھا جو قریش  
کی شاخ بنی تمیم میں سے تھے بلکہ کی والدہ ام الحیر بھی بنی تمیم میں سے تھیں یہ دونوں  
مسلمان ہوئے اور یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے کہ وہ اور ان کی والدہ ابو قحافہ اور  
بیٹے عبدالرحمن اور پوتے محمد بن عبدالرحمن چار پشتیں صحابی ہیں۔

ان کی ولادت آنحضرت کے دو یا ڈھائی سال بعد ہوئی۔ نوجوانی ہی کے زمانہ  
سے ان کے اخلاق پسندیدہ اور خصائل شریفانہ تھے۔ صاحب دولت تھے غریبوں  
اور محتاجوں کا بار اٹھاتے تھے اور قریش میں محبوب اور ہر دل عزیز تھے۔

ابتدائی سے آنحضرت کے ساتھی اور صاحب تھے اور جب ان کو اللہ تعالیٰ

نے نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلے جس شخص نے اس کو قبول کیا وہ حضرت ابو بکر

صدیق تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ

میں نے جس شخص کے سامنے اسلام کو پیش کیا اس میں اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ جھجک

ضرور دیکھی۔ بجز ابو بکر کے کہ انھوں نے بلا تردد اس کو تسلیم کر لیا۔



ایمان لانے کے بعد دعوت اسلام میں آنحضرت کو ان سے عظیم الشان مدد ملی۔ اور اکثر بڑے بڑے صحابہ جن کے کارنامے تاریخ اسلام میں بہت نمایاں ہیں انہیں کے اثر سے مسلمان ہوئے۔

انہوں نے دین پاک کی حمایت، اللہ کی رضا جوئی اور نبی کی امداد میں اپنا بہت سا مال صرف کر دیا۔ جو غلام مسلمان ہو جاتے تھے اور ان کے سنگدل آقا ان پر سختیاں کرتے تھے۔ ان میں سے اکثروں کو ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔

جب مشرکین مکہ کی ایذاؤں سے تنگ آ کر مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کو جانے لگے تو حضرت ابو بکر بھی روانہ ہوئے۔ راستہ میں قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنه نے روکا اور کہا کہ اگر تم ساری قوم دشمن ہے تو میں تم کو پناہ دیتا ہوں تم مکہ کو لوٹ چلو۔ چنانچہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آیا۔ قریش کے سرداروں کو طاقت کی اور کہا ایسا شخص جو محتاجوں کو کھلاتا اور غریبوں کی ہماں تواری اور مصیبت زدوں کی دستگیری کرتا ہے اس کو تم لوگ سستلے ہو اور گھر سے نکالتے ہو؟ میں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے اور وہ اپنے گھر میں رہیں گے۔ قریش نے ابن الدغنه کی بات مان لی لیکن یہ کہا کہ یہ اپنے گھر میں رہیں اور مخفی طور پر جس طرح چاہیں عبادت کریں۔

کچھ دنوں تک اسی شرط کے ساتھ رہے اور جب اعلان کے بغیر چارہ نہ رہا

تو جا کر ابن الدغنه کو اس کی پناہ داپس کی۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میرے لئے کافی ہے۔ میں راضی ہوں جو مصیبت پڑے گی اس کو برداشت کروں گا اس کے بعد مکہ میں سکونت پذیر رہے جب سرور عالم کو ہجرت کا حکم ملا۔ اور مدینہ کو چلے تو یہی تین راہ ہوئے اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ صحابہ میں سے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔

ہجرت کے بعد تمام ہجرات میں آنحضرتؐ کے ہمراہ رہے کسی میں ساتھ نہیں چھوڑا جنگ تبوک میں صاحب علم ہی تھے ۹ ہجری میں آنحضرتؐ نے انھیں کو اہل الحجاز بنایا اور جب مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو بجائے اپنے ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔

بڑے آدمیوں میں بعض بعض خاص صفیتیں ہوتی ہیں جو ان

### اعمال خلافیت

کے تمام کاموں میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ اور جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی صورت ان مخصوص صفات کو لئے ہوئے ذہن میں آتی ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ کی دو صفیتیں خاص طور پر نمایاں ہیں سختگی اور عزم و رقت قلب۔

سختگی عزم کے یہ معنی ہیں کہ جو ہم پیش آئے اس میں جہاں تک ہو سکے غور و فکر اور تامل کیے اور دوسرے ارباب عقل سے رائے و مشورہ لے لے اور جب اس کا راستہ متعین ہو جائے تو اس پر چل پڑے۔ پھر کوئی چیز اس کے بڑھنے میں رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ یہاں تک کہ اگر پیار بھی سامنے آئے تو وہ بھی سدا راہ نہ بن سکے یہی

حالت حضرت ابوبکرؓ کی تھی۔

رقت اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل درد سے اثر پذیر ہو یہاں تک کہ دوسروں کے مصائب کو بھی دیکھے تو قلب غمگین اور آنکھ پر نم ہو جائے۔

یہ دونوں تعلق باہم ایک دوسرے کے مصلح ہیں۔ اور بالخصوص مدبران امت میں ان دونوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ رقت قلب اثر کے لحاظ سے اس کو درد مندی کے ساتھ متفکر اور متدبر کرتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ کے ہر پہلو پر اسے غائر نظر ڈالنی پڑتی ہے اور صدق و عزیمت کی وجہ سے پھر اس کے قلب میں کمیونی پیدا ہو جاتی ہے اور پوری قوت کے ساتھ صحیح رُخ پر گامزن ہو جاتا ہے۔

حضرت ابوبکرؓ کی سختی و عزم کا نمایاں ظہور حبشہ کے معاملہ میں ہوا۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جنگ موتہ میں جو مشرکین رومیوں سے ہوئی تھی اور جس میں زید بن حارثہ وغیرہ شہید ہوئے تھے اس کے انتقام کے لئے آنحضرتؐ نے مرض الموت سے قبل ایک لشکر تیار کیا تھا اور اس کا سردار اسامہ کو مقرر فرمایا تھا۔

جب یہ لشکر کوچ کرنے لگا تو آنحضرتؐ بیمار ہو گئے۔ اس وجہ سے یہ رک گیا۔ یہاں تک کہ آپؐ نے انتقال فرمایا اس کے بعد ہی نہ سے قبائل عرب کے ارتداد کی خبریں آنی شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا کہ اب جبکہ تو مسلم قبیلے مرتد ہوتے چلے جاتے ہیں اور مخالفت بڑھ رہی ہے یہ فوج باہر نہ بھیجی جائے بلکہ یہیں

رکھی جائے کہ بروقت ضرورت کام دے انہوں نے نہایت سختی سے انکار فرمایا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے لوگوں کے مشوروں کو مان لیا ہوتا اور اس فوج کو نہ بھیجے تو حکم رسول کی مخالفت کا پہلا تخم امت میں پڑ جاتا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھیجنے کا قطعی حکم دے دیا تھا اور انتقال سے پہلے بار بار زبان مبارک سے اس کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔

صحابہ کرام نے ہر چندان سے کہا کہ اس لشکر میں مسلمانوں کے منتخب اشخاص موجود ہیں اور قبائل عرب کی حالت نظر کے سامنے ہے ایسی صورت میں جمعیت کو متفرق کرنا مناسب نہیں لیکن انہوں نے فرمایا۔

متم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں یہ بھی جان لوں کہ درندے مجھ کو بھاڑ کھائیں گے تب بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا اور خواہستیوں میں میرے سوا کوئی بھیجے جائے پھر بھی اس کو روانہ کئے بغیر نہ رہوں گا۔

حضرت اسامہ زید بن حارثہ کے بیٹے جو آنحضرتؐ کے غلام مشہور تھے، علاوہ بریں نو عمر آدمی تھے ان کا سن اس وقت سترہ سال کا تھا۔ انصار کی طرف سے حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ اگر آپ لشکر بھیجتے ہی ہیں تو کسی شریف النسل اور بن رسیدہ شخص کو اس کا امیر مقرر فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے غصہ



سے بے تاب ہو گئے۔ اور حضرت عمرؓ کی دائرہ سی بکریاں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم نے اسامہ کو سردار مقرر کر دیا ہے میں ان کو برطرف کر دوں؟

اس کے بعد خود اس فوج کو رخصت کرنے کے لئے تشریف لے گئے، حضرت  
اسامہ گھوڑے پر تھے، خلیفہ ان کے رکاب میں پتیل چلتے تھے اور ان کا کوتل  
گھوڑا حضرت عبدالرحمن بن عوف تھامے ہوئے تھے۔ اسامہ نے کہا یا تو آپ بھی سوار  
ہو جائیں یا مجھے اتارنے کی اجازت دیں۔ فرمایا کہ نہ میں خود سوار ہوں گا نہ تم کو پیادہ  
ہونے کی اجازت دوں گا۔

یہ تعظیم اصل میں مسلمانوں کے دل سے زمانہ جاہلیت کے اس نشانیہ کو دور  
کرنے کی غرض سے تھی جو ان میں رہ گیا تھا کہ وہ نوجوانوں اور غلام زادوں کو حقیر  
سمجھتے تھے۔

اس فوج میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے اور اس وقت حضرت ابو بکرؓ کی مدد کے لئے  
مدینہ میں ان کا رہنا اذیس ضروری تھا اس لئے خود ابو بکرؓ نے اسامہؓ سے درخواست  
کی کہ اگر مناسب سمجھو تو عمرؓ کو میری مدد کے لئے چھوڑ دو۔ اسامہؓ نے اجازت دیدی۔  
یہ بھی امت کے لئے جہودیت کا ایک سبق تھا۔ کیونکہ اسامہؓ رسول اللہؐ کے مقرر  
کئے ہوئے تھے اس لئے خلیفہ نے اس امر کو ان کے احترام کے منافی سمجھا کہ بلا ان  
کی منظوری کے استبداداً خود حضرت عمرؓ کو روک لیں۔ دماغ کرتے وقت حسب  
ذیل وصیت فرمائی:-

لگو! ذرا ٹھہر جاؤ! میں تم کو دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ان  
 کو یاد رکھنا۔ (۱) خیانت نہ کرنا۔ نہ مال چھپانا۔ بیوفائی سے بچنا۔  
 کسی کے اعضاء کا ٹٹنا۔ بوڑھوں۔ بچوں اور عورتوں کو مت قتل کرنا۔  
 کھنڈوں اور پھل لانے والے درختوں کو نہ کاٹنا۔ بجز کھلنے کے  
 اور کسی غرض سے جانوروں کو ذبح نہ کرنا۔ تم کو وہ لوگ ملیں گے جو  
 دنیا چھوڑ کر خانقاہوں میں عبادت کے لئے بیٹھے ہیں ان کو ان کے  
 حال پر چھوڑ دینا۔ ایسے لوگوں پر بھی تمہارا کدو ہوگا جو برتنوں میں  
 قیمتی چیز کے کھلنے تمہارے سامنے لائیں گے تم جب اس میں سے  
 کھانا تو اسکا نام لے کر کھانا۔ ایک شہامت ایسی بھی ملے گی جن  
 کے سروں میں شیطان نے گھونٹا بنا رکھا ہے ان کو تلواروں کاٹ  
 ڈالنا۔ اللہ کے نام پر روانہ ہو جاؤ۔ وہ تم کو دشمنوں کے نیروں اور  
 طاغون سے بچائے۔

یہ شکر یکم ربیع الثانی ۱۱۰۰ھ کو مدینہ سے روانہ ہوا۔ شام کے متصل پنجپور  
 بلا دقضاء کو تخت و تاج کیا اور چالیس روز کے بعد کامیابی کے ساتھ مدینہ  
 واپس آگیا۔

اس فوج کا اس وقت بھیجا نہایت مفید ثابت ہوا کیونکہ اسلام کے دشمنوں  
 اور مخالفوں کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر

مسلمانوں کو قوت حاصل نہ ہوتی تو عنسائیوں کے مقابلے کے لئے ایسے وقت ہیں  
فوج کس طرح بھیج سکتے۔

نجد اور یمن کے باشندے اور بعض دیگر صحرائشین قبائل  
**فِتْرَةُ ارْتِدَادٍ** اگرچہ اسلام لاچکے تھے لیکن ان کے دلوں میں دین اتیک

لاسخ نہیں ہوا تھا چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا  
أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

ذہبائی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہہ دو کہ تم ایمان  
نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ اسلام لائے۔ ابھی تک ایمان تمہارے

دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ  
فرائض اسلامی سے اب ہم کو آزادی حاصل ہو گئی ان کے اوپر سب گراں جو چیز تھی  
وہ زکوٰۃ تھی۔ چنانچہ انھوں نے اس کو روک لیا۔

اس کے علاوہ چند مدعیان نبوت بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت سے نو مسلم  
قبائل ان کے اثر میں آ گئے۔

حضرت ابو بکرؓ کے عزم صادق کا اس موقع پر بھی ظہور ہوا انھوں نے ان قبائل  
سے جنگ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یعنی جب ہر طرف سے قبیلوں کے مزید ہونے

کی خبریں آئی شروع ہوئیں اور بعض قبائل کے فرستادے مدینہ میں پہنچ گئے اور خلیفہ سے انہوں نے درخواست کی کہ ہم سے نماز پڑھو اور مگر زکوٰۃ معاف کر دو تو انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ سب نے رائے دی کہ مصلحت وقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ حضرت عمرؓ کا بھی مشورہ یہی تھا اس پر صدیق اکبرؓ نے ان کو مخاطب کر کے کہا:

اے عمر! جاہلیت میں تو تم بڑے جاہل تھے یہ کیا ہوا کہ اسلام لا کر خوار ہو گئے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دین کامل ہو چکا۔ کیا میرے جیتے ہوئے اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی قسم اگر زکوٰۃ کا ایک جاؤ بھی کوئی قبیہ روکے گا تو میں اس سے ضرور جہاد کروں گا۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ کلام سن کر میرے اوپر منکشف ہو گیا کہ حضرت ابوبکر کے دل کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لئے کھول دیا ہے۔ آخر قبائل کے جو قاصد آئے تھے وہ ناکام ہو گئے۔

حضرت ابوبکرؓ جیش اسامہ کے واسطے کے منتظر تھے۔ جب یہ فوج واپس آگئی تو اسامہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام کر کے ان کی فوج کو بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور خود صحابہ کی جمیعت لے کر مدینہ سے مقابلہ کے لئے نکلے لوگوں نے کہا کہ آپ مدینہ ہی میں قیام فرمائیں۔ اور یہ نفس نفیس دشمنوں کے مقابلے کے لئے نہ نکلیں کیونکہ اگر آپ کی ذات کو کوئی صدمہ پہنچ جائے گا تو نظام امت ابر ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے



کسی کو امیر بنا کر بھیجے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ نے اس کو قبول نہیں کیا۔

پہلا پڑاؤ مقام ابرق میں ڈالا وہاں بنی عباس سے مقابلہ اور مفتانہ ہوا وہ وہ شکست کھا کر بھاگے پھر آگے بڑھ کر بنی ذبیان کو مغلوب کیا اور ان کی چراگاہیں مجاہدین کے گھوڑوں کے لئے وقف کر دیں وہاں سے مدینہ میں واپس آئے۔

اسانہ کے لشکر کے لوگ اب تازہ دم ہو گئے تھے ان کو ساتھ لے کر پھر مدینہ سے بچلے اور مقام ذوالقصرہ میں جو مدینہ سے نجد کی جانب بارہ میل فاصلہ پہلے قیام فرمایا وہاں گیارہ جھنڈے گیارہ امیروں کو دے کر فوج کے دستے ان میں تقسیم کر دیئے اور مختلف اطراف میں ان کو روانہ کیا۔ تفصیل یہ ہے۔

۱) خالد بن ولید۔ طلیحہ بن خویلد اسدی کی طرف مقام نراخہ میں اور حبیب اس کی ہم سے فالغ ہو جائیں تو مقام بطاح میں نالک بن زورہ پر بڑھیں۔

۲) عکرمہ بن ابی جہل۔ سیلمہ کذاب کی طرف۔

۳) شرجیل بن حسنہ۔ عکرمہ کی امداد کے لئے۔

۴) ہاجر بن ابی امیہ۔ اینار کی امداد کے لئے۔

۵) حذیفہ بن یحییٰ۔ عمان میں اہل دبار کی طرف۔

۶) عرفجہ بن ہرثمہ۔ اہل ہرہ کی طرف۔ ان کو اور حذیفہ کو حکم دیا کہ ساتھ رہیں جس

کے رقبہ حکومت میں ددلوں ہوں وہی امیر ہے۔

۷) سوید بن مقرن۔ تہامہ میں

(۸) علامہ بن الحضری۔ بحرین

(۹) طرفیق بن حاجرہ بنی سلیم اور ان کے ساتھی جو بنی ہوازن میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کی سرکوبی کے لئے۔

(۱۰) عمرو بن عاص۔ بنی قضاعہ کی طرف۔

(۱۱) خالد بن سعید۔ مضافات شام۔

اس کے بعد مرتدین عرب کے نام ایک اعلان عام بھیجا۔ جس کا خلاصہ

یہ ہے۔

محمد کو تم لوگوں میں سے ان کا حال معلوم ہوا جو پہلے اسلام لائے تھے مگر اب اس دین کو چھوڑ بیٹھے۔ انہوں نے اپنی نادانی سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور شیطان کے فریب میں آگئے۔ حالانکہ وہ انسان کا دشمن ہے۔ میں تمہارے پاس فلاں شخص کو ہاجرین اور انصار کی فوج کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ وہ تم کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ جو اس کی بات مان لے گا اور نیک کام کرے گا تو اس کو نہ قتل کریں گا نہ اس سے لڑے گا۔ اور جو باز نہ آئے گا اس کے اوپر تلوار اٹھانے کا اور کسی سے بجز اسلام کے اور کچھ قبول نہ کرے گا۔

میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ میرے اس نوشتہ کو تمہارے مجمع عام میں سنائے اور نشانی یہ مقرر کی ہے کہ جس بستی کے لوگ

اذان پکاریں ان سے ہاتھ روک لیا جائے۔

امراء فوج کو بھی اسی مضمون کے مطابق ہدایتیں کیں اور کھپرا ان کو روکا

فرمایا۔

سطلیحہ بنی اسد کا سردار تھا۔ جب اس نے سرور عالم کی بیماری کی خبر سنی تو اس کو خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر کے اپنا نام ملک میں روشن کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ قبیلہ بنی اسد اس کے ساتھ ہو گیا۔ اور چونکہ بنی سطلیحہ ان کے حلیف تھے اس لئے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ بنی عطفان کے لوگ بھی بحر حنیڈ خواص کے اس شورش میں شامل ہو گئے۔ اس طرح پرتلیحہ کے پاس ایک بڑا انبوہ جمع ہو گیا اور سرزمین نجد میں چشمہ بزاخہ کے اوپر ان کا اجتماع ہوا۔

مدینہ میں اس وقت حاتم کے بیٹے حضرت عدی موجود تھے۔ وہ حضرت ابو بکرؓ سے اجازت لے کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ اور ان کو سمجھایا یا ان کے سمجھانے سے بنی سطلیحہ پر اسلام لائے۔ اسی اثنا میں حضرت خالد بنی فوج لے کر قریب پہنچ گئے۔ قبیلہ سطلیحہ کے لوگوں نے عدی سے کہا کہ تم جا کر خالد کو روک کے رہو۔ تاکہ ہم اپنے قبیلہ کے ان لوگوں کو جو سطلیحہ کے ساتھ ہیں بزاخہ سے نکال لائیں۔ ورنہ ہماری مخالفت کی وجہ سے وہ یا تو ان کو قتل کر ڈالے گا یا پھر کر رہن رکھے گا۔ عدی حضرت خالد کے پاس گئے اور کہا کہ آپ تین روز صبر کریں میرے قبیلہ سے اللہ شہ پارچ سو

جنگ اور اور مل جائیں گے جن سے آپ اپنے دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں  
حضرت خالدؓ نے ان کی بات مان لی۔

نبیؐ نے اپنے بھائیوں کو مقام بڑا خد سے امداد کے بہانہ سے بلا لائے اور  
سب کے سب اسلام پر قائم ہو گئے۔

عدی کے یہی کوشش قبیلہ جدیدہ میں بھی کی اور وہاں بھی نتیجہ حسب  
مراذیکلا۔ ان دونوں قبیلوں کے ایک ہزار آدمی حضرت خالدؓ کی فوج کے ساتھ  
شامل ہوئے۔

مورخین نے حضرت عدی کی اس کوشش پر ان کو نبیؐ کے بہترین  
فرزند کا لقب دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا کارنامہ نہایت عظیم الشان  
ہے۔ اس سے اسلام کو مدد پہنچنے کے علاوہ خود ان کا قبیلہ دینی اور دنیاوی برکتوں  
سے مالا مال ہوا۔

حضرت خالدؓ اپنی فوجیں لے کر براخہ میں پہنچے اور طلحہ کے ساتھ جنگ کے  
اس کوشش سے دی اس کی تمام جماعت منتشر ہو گئی اور وہ خود بھاگ گیا۔  
کچھ زمانہ کے بعد ہر قسم کی ذلت و خواری اٹھا کر کھڑے مسلمان ہوا اور مدینہ میں آیا حضرت  
عمرؓ نے اسے دیکھ کر کہا کہ اے کاذب! تیرا ہی دعویٰ تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی  
ہے کہ مجھے اللہ رسوا نہ کرے گا اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! یہ سب کفر کے فتنے تھے  
جن کو میرے اسلام نے مٹا دیا۔ اب آپ مجھ پر سخت گیری نہ کریں۔



آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل تمیم میں متعدد  
بنی تمیم و مالک بن نویرہ امرار مقرر کئے تھے جن میں سے زبرقان بن بدر  
 بن عاصم، وکیع بن مالک اور مالک بن نویرہ بھی تھے۔ فتنہ ارتداد میں ان  
 سے کوئی اسلام پر قائم رہا۔ کوئی مرتد ہو گیا۔ کوئی مذہب تھا۔ اسی درمیان  
 بنی تمیمی بنی یربوع کی شاخ بنی تغلب میں سے ایک عورت سجاح بن حارث نے  
 ت کا دعویٰ کیا بنی تغلب کے نصاریٰ کی جماعت اس کے ساتھ ہو گئی۔

سجاح نے ارادہ کیا کہ مدینہ پر چڑھائی کرے۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلایا۔  
 ہوں نے مشورہ دیا کہ بنی تمیم کے بعض قبائل تمہارے مخالف ہیں پہلے ان کو اپنے  
 لوہیں کر لو اس کے بعد کہیں کا ارادہ کرو۔ وکیع بن مالک بھی اس کے ساتھ ہو گئے  
 نے اپنے مخالف تمیمی قبائل کے ساتھ جنگ شروع کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔  
 خزا اس ہم کو چھوڑ کر سبیلہ کذاب کی طرف رخ کیا جس نے پیامہ میں نبوت کا  
 دعویٰ کیا تھا اس نے صلح کر لی۔

اسی اثنا میں حضرت خالدؓ اپنی فوج لے کر اس طرف پہنچے سجاح کی جمیعت  
 منتشر ہو گئی۔ دوسا بنی تمیم بھی اپنے کئے پر پشیمان ہوئے اور ان لوگوں نے مال کو  
 حضرت خالدؓ کے پاس بھیج دیا۔ مالک بن نویرہ نے نہیں بھیجا اور اپنے قبیلہ کو حکم دیا کہ  
 تفرق ہو جائے۔

حضرت خالدؓ جب مقام بطاح میں پہنچے اور وہاں کسی کو نہ دیکھا تو اپنی فوج کے

دستے ادھر ادھر تلاش کے لئے بھیجے۔ ایک دستہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھ  
کو پکڑ لایا۔ خالد نے ان کو قید کیا اور پھر قتل کر ڈالا۔

بعض مسلمانوں نے جن میں حضرت ابو قتادہؓ بھی تھے اس قتل کو خلیفہ کے  
کے جلافت قرار دیا اس لئے کہ انھوں نے گرفتاری سے قبل ان مقتولین کو اذکار  
سنا تھا اور اس کی شہادت بھی دی تھی۔

جس بات نے اس الزام کو اور زیادہ اہمیت دی وہ یہ تھی کہ خالد نے  
بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کر لیا۔

یہ خبر جس وقت حضرت ابو بکرؓ کو پہنچی تو انھوں نے افسوس کیا کہ حضرت  
ہماکہ خالد کی تلوار خونریز ہے اگر یہ الزام سچ ہے تو لازم ہے کہ وہ قید کے  
خالد کا جواب یہ تھا کہ ان لوگوں نے قتل کے وقت سے اذان پکار دی تھی بلکہ  
حضرت عمرؓ کو اس جواب سے تسلی نہ ہوئی ان کو خالدؓ کی گرفتاری پر اصرار تھا  
حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ خالدؓ پر یہ الزام ہے کہ انھوں نے اس  
تادیب کی اس میں ان سے غلطی ہو گئی۔ اے عمرؓ! تم خالدؓ کے بلے میں پنی  
بند کرو۔ پھر خلیفہ نے خود مالک کا خون بہا ادا کیا۔

حضرت ابو قتادہؓ خالدؓ سے حقا ہو کر بلا ان کی اجازت کے ان کی فوج  
نیکل کر مدینہ میں چلے آئے تھے چونکہ یہ امر فوجی نظام کے منافی تھا اس لئے  
ان کی جلافت شان اور بزرگی کے بھی حضرت ابو بکرؓ ان کے اوپر براہِ فرض

یہ اہل فدوان کو خالد کے پاس بھیجا۔

نبی یرویغ کی خواری کے بعد قبائلی تمیم عام طور پر اسلام کی طرف پلٹ گئے  
 ہر طرح زمانہ رسالت میں زکوٰۃ دیتے تھے اسی طرح دربارِ خلافت میں  
 لگے۔

یامہ کا قبیلہ بنی حنیفہ آنحضرتؐ کی زندگی ہی میں مسلمان ہو چکا

**ملکہ کذاب** تھا ان کا وفد بھی دربار رسالت میں آیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سن کر اس قبیلہ کے سردار سیلمہ  
 موت کا دعویٰ کر دیا۔ اور مشہور کیا کہ آنحضرتؐ نے خود مجھ کو اپنا شریک بن لیا تھا۔  
 کی خواہش تھی کہ نصف ملک عرب میرے قبضہ میں رہے اور نصف قریش  
 مگر پھر کہتا تھا کہ قریش نامنصف قوم ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے اس کے مقابلے کے لئے یکے بعد دیگرے دو لشکر روانہ کئے۔  
 پہلی فوج کو عکرمہ اور دوسری کو شرجیل لے کر گئے۔ حکم دیا تھا کہ جب دونوں فوجیں  
 مل ہو جائیں تب بنی حنیفہ سے جنگ کی جائے۔ لیکن عکرمہ نے اس خیال سے کہ  
 کامیابی کا سہرا میرے سر بنا ہے پنچکرا کیلے اپنی ہی فوج سے حملہ کر دیا۔ اور  
 کشت کھائی۔ حضرت ابو بکرؓ اس کو سن کر بہت برہم ہوئے ان دونوں فوجوں کو  
 ہال سے دوسری طرف جانے کا حکم دیا۔ اور خالد بن ولید کو جو بنی تمیم کی ہم سے فاریغ  
 رکھتے بنی حنیفہ کی طرف روانہ کیا۔

یسلہ کے پاس بہت بڑی جمعیت تھی جس کی تعداد تقریباً چالیس ہزار تھی  
 بادیہ نشین جو قبائل ربیعہ میں سے تھے بعض تومی عصبیت کے خیال سے اس  
 ساتھ ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض بعض صاف صاف طور پر کہتے  
 یسلہ کذاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیچے ہیں۔ لیکن ربیعہ کا جھوٹا بی  
 کے سچے نبی سے ہم کو زیادہ محبوب ہے۔

حضرت خالدؓ جب وہاں پہنچے تو نہایت ہولناک جنگ پیش آئی۔ نبی  
 نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔  
 چند پر جوش باحمیت اور غیرت مند صحابہ کی کوشش اور ہمت و دلہ کی وجہ سے  
 اسلامی فوج ثابت قدم رہ گئی اور اس جوش کے ساتھ حملہ کیا کہ کشتوں کے پٹ  
 دیئے۔ خود یسلہ جو وسط فوج میں تھا مارا گیا اس کو وحشی عنانم جو حضرت حمزہؓ کا  
 تھا اور ایک انصاری شخص نے قتل کیا۔ بنی حنیفہ شکست کھا کر بھاگے اور  
 قلعوں میں پناہ گزین ہوئے۔ بالآخر ان کے قائم مقام مجاہد بن مراد نے حضرت  
 عصبہؓ کو مصالحت کی۔ صلح اس بات پر قرار پائی کہ وہ لوگ قتل نہ کئے جائیں  
 ان کا قندمال اور ہتھیار ضبط کر لئے جائیں اور جس قدر ان کے اسیران جنگ ہیں  
 میں سے ایک چہارم لے لئے جائیں۔

حضرت ابو بکرؓ نے خالدؓ کے نام ہدایت نامہ لکھا تھا کہ بنی حنیفہ کے مقابلہ  
 قتل کئے جائیں۔ یہ مکتوب معاہدہ صلح کے بعد پہنچا۔ اس لئے حضرت خالدؓ نے اپنی



شہر اظکو پورا کیا۔

بنی حنیفہ اس کے بعد ارتداد چھوڑ کر اسلام کی طرف آگئے حضرت خالد نے ان میں سے منتخب اشخاص کا ایک وفد بھیجا۔ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ یہ تم کو کیا ہو گیا تھا کہ اپنے کو اور نیز ہم کو مصیبت میں ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ ایسا کام تھا جو اللہ کی مرضی کے خلاف اور ہمارے لئے نامبارک تھا۔

آنحضرت کی وفات سے پیشتر قحطانی قبیلہ کی ایک شاخ عنس **أسود بن عنسی** کے سردار اسو نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یمن کے دیہاتی اس کے پیرو ہو گئے اس نے ان کی مدد سے بحر ان پر قبضہ کر لیا۔ وہاں قبیلہ منجج کے لوگ بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ اب وہ صنعاء کی طرف بڑھا۔ وہاں کے عامل شہر سے لڑائی کی۔ اور ایرانی فوج کو جو ابناہ کے نام سے مشہور تھی شکست دیدی۔ اس فتح کی وجہ سے تمام یمن میں اس کی دھوم مچ گئی اور اس کے ہتھیاروں سے آگے ہر طرف پھیل گئی۔ اہل یمن میں سے کچھ لوگ اس کے پیرو ہو گئے اور کچھ لوگ اس کے خوف سے خاموش ہوئے۔ آنحضرت کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو ایک خط ابناہ کے سرداروں کے پاس بھیجا کہ دین اسلام پر قائم رہیں اور اسود کو قتل کر ڈالیں۔

اسی درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اسود اپنے لشکر کے سردار قیس بن عبد یغوث مرادی سے بدگمان ہو گیا۔ قیس کو اپنی جان کا خطرہ ہوا۔ اس لئے وہ ابناہ کے ساتھ مل گیا۔ اور اسود کے قتل کے سازش کی اس میں عالم شہر کی بیوی بھی جس

کو اسود نے اس کے شوہر کے قتل کے بعد جبراً اپنے نکاح میں لے لیا تھا شریک ہو گیا  
 اپنا میں سے ایک شخص فیروز نامی نے موقع پا کر رات کو اسود کے مکان میں چھپ  
 کر اس کو اچانک قتل کر ڈالا۔ اور جب صبح ہوئی تو اس کے گوشے کی چھت پر چڑھ کر  
 اذان پکاری۔ اس طرح پر صنعاہ فتنہ اور فساد سے آزاد ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے  
 ان تمام واقعات کی خبر آنحضرتؐ کو لکھ دی۔ ان کا قصد مدینہ میں اس صبح کو پہنچا جس  
 کی شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔

اسود کی ابتدائی شورش سے اس کے قتل تک کا زمانہ تقریباً چار مہینہ تھا۔

جب اہل یمن کو آنحضرتؐ کے انتقال کی خبر ملی تو اسود عنسی کے بعض حامیوں  
 نے پھر فتنہ برپا کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے وہاں کے مسلمانوں کو لکھا کہ تم ان مرتدوں  
 کے مقابلے میں بگے رہو۔ بہت جلد فوج بھیجے ہیں۔ چنانچہ ہاجرین ابی امیہ لشکر لے  
 ہوئے وہاں پہنچے اور صنعاہ پر قبضہ کیا۔ شورش پسندوں کے سرغنے مثلاً قیس بن عبد  
 یغوث اور عمرو بن سعدی کرب وغیرہ گرفتار کئے گئے۔

پھر ہاجر صنعاہ سے تضرعت میں قید کنندہ کی طرف گئے۔ کیونکہ وہاں کے لوگ  
 بھی مرتد ہو گئے تھے۔ اسی مقام پر عکرمہ کی فوج بھی آ کر ان کے ساتھ مل گئی۔ بنی کندہ  
 نے شکست کھائی اور ان کا سردار اشعث بن قیس پکڑا گیا۔

بحرین میں عبد القیس اور بحرین ربیعہ کے قبائل آباد تھے  
 آنحضرتؐ نے منذر بن سادی کو ان کا والی مقرر فرمایا تھا۔

بحرین اور حطم

جس ہینے میں آپ نے وفات پائی اسی ہینے میں مندر نے بھی انتقال کیا۔ اہل بحرین مرتد ہو گئے۔

حضرت جبار و دین معلانے جو اسلام پر ثابت قدم تھے اپنے قبیلہ عبدالقیس کو جمع کیا۔ اور کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اگر تمہیں معلوم ہو تو جواب دینا اور نہ خاموش رہنا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ آنحضرتؐ سے پہلے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء آتے رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ بے شک! حضرت جبار و دین نے کہا کہ پھر وہ کہاں گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ گذر گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح وہ لوگ گذر گئے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کو چھوڑ گئے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

ان لوگوں نے بھی ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں اور آپ ہمارے سردار اور ہم سب سے افضل ہیں۔ اس طرح پر قبیلہ عبدالقیس بلا کسی جنگ کے اسلام پر قائم ہو گیا۔ لیکن بنی بکر کے سردار حطلم بن صبیغہ نے اپنے قبیلہ کو گمراہ کیا۔ نیز اس نے قطیف اور ہجر کے باشندوں کو بھی بہسکایا۔

حضرت ہمار بن حضرمی حلیفہ کے حکم سے فوج لے کر وہاں پہنچے۔ ثمامہ بن اثال بھی بنی حنیفہ اور بنی تمیم کی ایک جماعت لے کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حطلم

مفتاب کے لئے آیا اور شکست کھا کر مقتول ہوا۔ اس کے بعد بنی بکر راہ  
راست پر گئے۔

ان کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں مختلف اطراف میں مرتدین کے  
ساتھ ہوئیں۔ اور سب میں مسلمان ہی غالب ہے۔

تاریخ کے ان تمام واقعات کو پڑھنے کے بعد اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے  
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکرؓ کو ایسا عزم راسخ اور قلب قوی عطا فرمایا تھا  
دنیا کے ممتاز ترین لوگوں میں بھی مشکل سے پایا جاسکتا ہے۔ ارتداد کی شور شراب  
جو سارے ملک میں پھیل گئی تھیں اس میں مسلمانوں کی جو حالت ہو گئی تھی حضرت  
عبداللہ بن مسعود اس کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

فِتْنَةُ اِرْتِدَادٍ فِي مُسْلِمَانٍ بَكْرِيٍّ كَمَا فِي رِوَايَةِ اَبِي سَلَمَةَ

موسم زمستان کی سردرات میں برستے ہوئے پانی میں گھرے باہر

بیابان میں بے چرواہے کے رہ جائے۔

لیکن پورے ایک سال کا زمانہ بھی گزرنے نہ پایا کہ حضرت ابو بکرؓ نے اس فتنہ  
فرو کر دیا۔ اس سے نہ صرف ان کے عزم راسخ کا پتہ چلتا ہے بلکہ جو نظام و جو  
انہوں نے قائم کیا تھا اور جس طرح پر امراء لشکر کے ساتھ سلسلہ وار خط و کتابت  
ادراں کو بندائیں بھیجا کرتے اس کی بھی تعریف کرنی پڑتی ہے۔

ہم بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ اگر امداد الہی کے بعد حضرت ابو بکرؓ کا عزم



نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تاریخ وہ رتبہ حاصل نہ کر سکتی جو اس کو حاصل ہوا۔

## ظہورِ عرب

امت عربیہ مدت دراز سے اپنے جزیرہ عرب میں محصور اور اپنے ملک کے صحراؤں اور بیابانوں پر قانع تھی۔ باہمی جنگوں نے جو سلسلہ واران میں جاری رہتی تھیں ان کی قوتوں کو فنا کر رکھا تھا۔ ان کی ہمسایہ قوتیں ان پر غالب آگئی تھیں اور ان کے ملک کے جو زرخیز مقامات تھے ان پر قبضہ کر رکھا تھا۔ گو خود بعض عربی قبائل میں بھی حکومت اور ریاست تھی۔ لیکن وہ یا استقلال حکمراں نہیں تھے بلکہ ناکار یا روم کے ماتحت تھے۔

مگر جب اسلام آیا تو اس نے انہیں مغلوب عربوں سے ایک ایسی عظیم الشان امت تیار کی جس نے روم اور فارس کی قوتوں کو توڑ کر اپنی سلطنت قائم کی اور قدیم حالت بدل دی۔

عرب کے ددوں باندوؤں پر دنیا کی وہ عظیم الشان سلطنتیں قائم تھیں جن کی عظمت اور شوکت کے آگے زمانہ قدیم سے اہل عرب اپنے سر کو جھکتے تھے یعنی ایران اور روم شرقی۔

سلطنت ایران کا پایہ تخت مدائن تھا جو واسط اور بغداد کے درمیان  
ایران دیکھئے دجلہ کے مشرقی ساحل پر واقع تھا۔ یہاں ساسانی

خاندان کا بلاد شاہ رہا کرتا تھا۔

ساسانی سلطنت کی بنیاد اردشیر بابکان نے ڈالی تھی۔ اس نے اسی  
طوائف الملوک کے بعد جو اسکندریہ مقدونی کی فتح اور یونانیوں کی حکومت سے پیدا  
ہوئی تھی ۶۲۸ء میں پھر ایرانیوں کا پکھرا ہوا شیرازہ جمع کیا اور تمام ایرانی ممالک  
نیز عراق کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اور اپنا لقب شہنشاہ رکھا۔ یہ سلطنت سلسلہ بہ سلسلہ  
اسی کی اولاد میں چلی آتی تھی۔

شیرواں کا پوتا خسرو پرویز تخت سلطنت پر تھا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ  
وسلم کا خط دعوت اسلام کے متعلق اس کے پاس گیا اس نے غصہ میں اس کو چاک  
چاک کر ڈالا اور اپنے یمن کے عاہل کو لکھا کہ وہ اس داعی مذہب کو پکڑ کر دربار  
میں بھیج دے۔

اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے بیٹے شیروہ نے اس کو قتل کر دیا  
اور خود تخت نشین ہوا۔ لیکن وہ زیادہ عرصہ تک سلطنت نہ کر سکا اور صرف چھ مہینے  
کے بعد اپنے خاندان و ملک کے ساتھ بہت کچھ سختیاں کر کے فنا ہو گیا۔ پھر اس کا  
کبرن بچہ اردشیر تخت پر بٹھایا گیا اور اس کے نام سے سلطنت کے زمان جاری  
ہونے لگے۔ ایرانی فوج کا پہلا سالار شہر براز جو رومی سرحد پر فوجیں لئے پڑا تھا  
اردشیر کی تخت نشینی کا حال سکر مدائن میں آیا اور اس لڑکے کو قتل کر کے خود  
اپنے سر پر تاج رکھا چونکہ وہ شاہی خاندان سے نہ تھا اس لئے امر اور ارکان سلطنت

نے اس کی مخالفت کی اور متفق ہو کر اس کو مار ڈالا۔ اور شیرویہ کی بہن بوران کو تخت نشین کیا۔ یہ صرف سولہ ہینے حکمراں رہی۔ اس کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری زمانہ تھا۔ بوران کے بعد جہان شیر نے سر پر تاج رکھا۔ لیکن ایک ہیٹھ بھی وہ اس کے سر پر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد خسرو پوزیز کی دوسری بیٹی آرزوی تخت تخت سلطنت پر بیٹھی۔ آخر میں شاہ یزدگرد و شہزادہ بلدشاہ بنایا گیا۔ جس کے زمانہ میں تمام ایران اسلامی جھٹبے کے نیچے آ گیا۔

ایران کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سلطنت روم تھی جو وسعت اور قوت و شوکت کے لحاظ سے اس کی مد مقابل تھی اس کا پایہ تخت رومۃ الکبریٰ اور اس کے حدود حکومت میں مشرقی مالک شام، مصر اور حبش وغیرہ شامل تھے۔

ایک مدت کے بعد اس کی سلطنت کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مغربی حصہ کا مرکز بدستور رومہ رہا اور مشرقی حصہ کا پایہ تخت قسطنطنیہ قرار پایا۔ ابتدائے اسلام میں قسطنطنیہ کے تخت پر ہرقل قابض تھا جو اپنے تخت نشین ہونے سے پہلے افریقیہ کا والی تھا۔ پھر قیسر روم سے بغاوت کر کے اس کو قتل کر ڈالا اور ۶۱۰ء میں اس کے بجائے اپنے سر پر تاج رکھا۔ اس کی حکومت ۶۲۱ء تک رہی اس کے زمانہ میں مسلمانوں نے ملک شام کو فتح کیا۔

ایرانی اور رومی سلطنتوں میں ایک دائمی نزاع چلی آتی تھی اور شام و

عراق کے میدان ان کے تنازعات کی جولانگاہ تھے جہاں اکثر دونوں میں لڑائی کی آگ شعل رتی تھی۔ کبھی ایرانی غالب آجاتے تھے اور ان کی سلطنت بحر روم کے سواحل تک پہنچ جاتی تھی اور کبھی رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا تھا اور وہ حلب اور فرات تک قابض ہو جاتے تھے۔ آغاز اسلام میں قیصر فوقا اور نوشیروان کی فوجوں میں جنگ ہوئی تھی۔ اس میں اہل فارس کو سلسلہ وار فتوحات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے رومیوں کو شام سے نکال کر باسفرس کے سواحل تک دھکیل دیا۔ اور قینشیا اور فلسطین کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ پھر ہرقل کے زمانہ میں بھی یروشلم پر حملہ آور ہوئے اور وہاں بہت سے مسیحی آثار کو مٹا دیا اور صلیب مقدس چھین لائے۔ ۶۱۶ء میں مصر پر بڑھے اور اسکندریہ تک فتح کر لیا۔

یہ فتوحات چونکہ ایک مشرک قوم کو اہل کتاب پر حاصل ہوئی تھیں اس لئے مشرکین عرب مسلمانوں کے مقابلہ میں اس پر شادیا نے بجاتے تھے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ اگرچہ رومی اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سال کے بعد وہ پھر غالب آجائیں گے اور اس وقت مسلمان خوش ہوں گے۔

قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ ۶۲۲ء میں ہرقل اپنے خواب غفلت سے ہوشیار ہوا اور سامان اور فوجوں کو مرتب کر کے ایرانیوں پر حملہ کیا اور فتح پائی۔



ایران و روم کی یہ لڑائیاں اسی طرح جاری رہیں۔ جب شہزادہ خسرو پر دیز کو قتل کر ڈالا اور ایران کی سلطنت کا مالک ہو گیا تو اس نے ۶۲۸ء میں دیوں سے معافیت کر لی جس قدر عیسائی قیدی اس کے پاس تھے واپس کر دیئے اور صلیب مقدس بھی دیدی۔ ہر قتل کو اس کا میا بی پر انتہا درجہ کا سرور اور فخر حاصل ہوا۔ اور ۶۲۹ء میں اس کا شکر یہ ادا کرنے کے لئے بیت المقدس میں آیا۔ یہی وہ سال ہے جس میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ اسلام کا خط بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ خط بیت المقدس ہی میں اس کو موصول ہوا۔

ابتداءً عہدِ خلافت میں ان دونوں سلطنتوں کی اجمالی حالت یہی تھی۔

ایرانی جس نگاہ سے اہل عرب اور خاص کر اسلام کو دیکھتے تھے اس کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ خسرو پر دیز نے نامہ نبوی کو چاک کر ڈالا تھا اور یمن کے عامل کو حکم دے دیا تھا کہ وہ عرب کے نبی کو گرفتار کر کے دربار میں بھیج دے۔ لیکن اس درمیان میں تختِ سلطنت میں منقلب جھگڑے برپا ہو گئے اور اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے ان کو مسلمانوں کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہ ملی۔ علاوہ بریں وہ اپنی قوت اور شوکت کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب چاہیں گے ان کا استیصال کر دیں گے اس وجہ سے مسلمان ایرانیوں کی طرف سے مطلق مطمئن نہ تھے اور خوب جانتے تھے کہ جس وقت یہ اپنی نزاعات سے فرصت پا گئے اس وقت ہماری طرف رخ کریں گے

## جنگ ایران



اس لئے ابو بکرؓ جب مرتدین کی ہم سے فالغ ہوئے تو اپنے پہ سالار اعظم  
خالد بن ولید کو ایران پر فوج کشی کا حکم دیا۔ اور ان کو یہ بھی تاکید کر دی کہ  
صرف انہیں مسلمانوں کو اپنے ساتھ جنگ پر لے جائیں جو فتنہ ارتداد سے  
محفوظ رہے تھے۔

حضرت خالد کو یہ فرمان پیامہ میں موصول ہوا۔ اس وقت انہوں نے سرحد  
عراق کے فرما نرواہر مرز کو یہ خط لکھا:-

تم اسلام لانا محفوظ رہو گے۔ یا اپنی قوم کی طرف سے ذمی ہونے  
کا اقرار کرو۔ اور جزیہ دینا قبول کر لو۔ ورنہ سوائے اپنے پھر کسی کو  
طاقت نہ کرنا کیونکہ میں ایک ایسی قوم کو تمہارے مقابلہ میں لا رہا ہوں جو  
اسی قدر موت کی خواہاں ہے جس قدر تم زندگی کے خواہاں ہو۔

اس کے بعد ہی وہ خود بھی اپنی فوجوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے  
ہرمز کو جس وقت یہ خط ملا اس نے شہنشاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ اور اپنی  
ساری فوجیں جمع کر کے کو اظم کی طرف بڑھا۔ یہ اس سرحد کے بدترین امراء میں  
سے تھا۔ اور تمام عرب جو اس وقت قرب و چوار میں بستے تھے اس کے سخت  
دشمن تھے۔

جب دونوں فوجوں میں مقابلہ ہوا تو خالد نے ہرمز کو میدان جنگ میں  
پکارا۔ وہ مقلبے کے لئے آیا اور مارا گیا۔ اس کے بعد ایرانی نہ بھڑکے۔ اور

شکست کھا کر بھاگے۔

ایرانی سپاہیوں کی ایک جماعت نے اس خیال سے کہ میدان جنگ سے بھاگ نہ سکیں۔ اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ رکھا تھا۔ مسلمانوں نے جب ان کو فراہم کیا تو تقریباً ایک شتر بار ہوئیں۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو ذات السلاسل کہتے ہیں۔

اس فتح کی خبر حضرت ابو بکرؓ کو پہنچی تو بہت خوش ہوئے اور ازراہ قدر دانی ہرمز کا تاج جو ایک لاکھ درہم کا تھا حضرت خالدؓ کو بخش دیا۔ خالدؓ اپنی فوجوں کو وہاں سے لے کر آگے بڑھے اور اس مقام پر جہاں بعد میں بصرہ آباد کیا گیا قیام نہرایا۔

دربار ایران کی طرف سے قارن کی سرکردگی میں ایک فوج ہرمز کی کمک کے لئے روانہ کی گئی تھی۔ ابھی وہ راستہ ہی میں تھی کہ اس کو اس شکست کی خبر ملی اس نے مقام ہزار میں خیمے ڈال دیئے۔ حضرت خالدؓ نے اپنی فوج کو اسی طرف بڑھایا اور صفت آرائی کی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں ایرانی شکست کھا گئے۔ اور ان کا سپہ سالار مارا گیا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ لیکن وہ کشتیوں میں سوار ہو کر ندی سے پار اتر گئے۔ جس قدر ایرانی اس جنگ میں قتل ہوئے ان کی تعداد تیس ہزار تھی۔

اس شکست کی خبر جس وقت شہنشاہ ایران کو پہنچی تو اس نے اندر زگر

کی سپہ سالاری میں ایک فوج گراں روانہ کی۔ جب وہ مدائن سے نکل کر مقام  
 ولجہ میں پہنچا تو اس کی امداد کو ایک دوسری فوج بہمن جادویہ کی سرکردگی  
 میں بھیجی ایرانی فوج میں کتر نصارائے عرب بھی شامل ہو گئے۔

جب خالد کو ان فوجوں کا حال معلوم ہوا تو مقابلے کے لئے آگے بڑھے  
 لیکن اپنے خطر رجعت کو محفوظ رکھنے کے لئے جا بجا دستے متعین کرتے گئے۔ ولجہ  
 میں پہنچ کر تین طرف سے ایرانیوں پر حملہ کا سامان کیا۔ پہلے ایک جانب  
 سے خود بڑھے اس کے بعد جب لڑائی کے شعلے بھڑکنے لگے تو دوسرا حصہ  
 اور پھر تیسرا حصہ فوج کا اپنی اپنی کمین گاہوں سے نکل کر حملہ آور ہوا۔ اس  
 تدبیر سے ایرانی گھبرا گئے اور بہت جلد ہزیمت کھا کر بھاگے۔ ان کا سردار  
 ایک طرف بدحواسی میں نکل گیا اور پیاس کی شدت سے مر گیا۔

قبیلہ بکر کے جن عیسائی عربوں نے ایرانیوں کی مدد کی تھی وہ بیشتر  
 اس لڑائی میں قتل کر دیئے گئے۔ اس سے ان کے ہم قوم نصاریٰ جو مش میں آ کر  
 مسلمانوں سے انتقام لینے کے لئے بہمن جادویہ کی فوج میں جا کر بل گئے وہ  
 انبار کے متصل الیس میں اپنا لشکر لے ہوئے پڑا تھا۔ خالد نے پہنچ کر اس  
 پر حملہ کیا اور اس کے فوج کے زیادہ حصہ کو قتل کر ڈالا۔

الیس کی جنگ سے فالغ ہو کر حیرہ کا محاصرہ کیا۔ اہل حیرہ نے یہ دیکھ کر  
 کہ ہم مفت بل نہیں کر سکتے، مصالحت کی خواہش کی۔ عمرو بن عبدالمسیح

اور دوسرے رؤسائے آگر صلح کی گفتگو کی۔ ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ پر مصالحت قرار پائی۔ ان لوگوں نے بہت سے تحفے اور ہدیے بھی پیش کیے حضرت خالد نے خلیفہ کی ہدایت کے مطابق ان کو جزیہ کی رقم میں شمار کر لیا۔ اور عہد نامہ لکھا جس کا مضمون یہ تھا:-

یہ عہد ہے جو خالد بن ولید نے عدی اور عمر سپران عدی اور عمرو بن اسیح اور ایاس بن قبیصہ اور حیری بن اکالی کے ساتھ کیا نامبرگان باشندگان حیرہ کے قائم مقام اور وہاں کے رؤسائے۔ قرار داد یہ ہے کہ وہ ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے ہمارے ذمہ ان کی حفاظت ہے۔ اگر ہم ان کی محافظت نہ کریں تو ان کے اوپر کوئی رقم واجب نہیں اور اگر یہ لوگ تو لا یا نغلا بد عہدی کریں تو ہم ان سے بری الذمہ ہیں۔

اہل حیرہ سے صلح ہونے کے بعد صلواتانے بھی جو قس ناطف کارئین مہتا عہد نامہ لکھ دیا۔ ایرانی مرزبانوں اور دہقانوں نے بھی جب حضرت خالد کی فتوحات اور ان کے عہد نامہ کو دیکھا اور ان کے انصاف اور برتاؤ کی خوبی کا ان کو حال معلوم ہوا تو فلاتیج سے ہر مرد تک کے رؤسائے آگر بیس لاکھ درہم سالانہ جزیہ پر صلح کر لی۔ حضرت خالد نے تحصیل و خراج جزیہ اور ملکی انتظامات کے لئے سعمال مقرر کئے اور ذمیوں کے امن و امان کا پورا ا



بندوبست کیا۔

حیرت سے انہوں نے بادشاہ ایران کو ایک خط بھیجا جس کا مضمون

یہ تھا کہ:-

از جانب خالد بن ولید بنام فرما زور سے ایران۔ اللہ کا شکر ہے  
 جس نے تمہارے نظام کو قتل اور تمہاری تدابیر کو بیکار کر کے  
 تم کو ایتر کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تمہارے حق میں اور زیادہ بُرا  
 ہوتا تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہم تم کو اور تمہاری سرزمین  
 کو چھوڑ دیں گے۔ ورنہ بالآخر تم کو یہ ہی کرنا پڑے گا میرے ساتھ  
 وہ لوگ ہیں جو موت کے اسی قدر عاشق ہیں جس قدر تم  
 زلیت کے عاشق ہو۔

اس زمانہ میں اہل ایران میں تخت سلطنت کے متعلق اختلافات تھے کیونکہ  
 شاہی خاندان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کو وہ اپنا بادشاہ  
 بنا لیتے جب حضرت خالد کا خط پہنچا تو انہوں نے اپنے جھگڑوں کو مٹا کر  
 فرخ زاد کو بادشاہ بنا لیا۔ اور کہا کہ جب تک ساسانی خاندان کا کوئی شخص  
 بادشاہت کے قابل نہ ملے اس وقت تک امور سلطنت اسی کے ہاتھ  
 میں رہیں۔

جب خالد جنوبی عراق کی اہم سے فالج ہو کر شمالی عراق میں



حیاض بن غنم کی امداد کے لئے روانہ ہوئے حیرہ پر قحطاط بن عمرو کو اپنا قائم مقام مقرر کر گئے۔ جب انبار میں پہنچے تو وہاں کے باشندے قلعہ گیر ہو گئے۔ ان کا محاصرہ کیا اور ان کے ادب پر تیر برسائے۔ بالآخر انہوں نے اس بات پر مصالحت کی کہ جریدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل جائیں اور مع تمام مال متاع کے قلعہ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ حضرت خالد نے اس کو منظور کر لیا۔ اس فتح کے بعد اس اطراف کے رئیسوں نے بھی جزیہ پر صلح کر لی۔ وہاں زبرقان بن بدر کو اپنا جانشین بنا کر عین التمر کی طرف بڑھے۔ جہاں ہیران پسر ہیرام جو ہیں فوج لئے پڑا تھا۔ نمر۔ تغلب اور ایاد کے قبائل کے نصاریٰ نے عرب بھی عقبہ بن ابی عقبہ کی ماتحتی میں اس کے ساتھ شامل تھے۔ عقبہ نے ہیران سے کہا کہ عرب عربوں کی لڑائی سے ابھی طرح واقف ہیں۔ لہذا ہم کو خالد کے مقابلہ کے لئے جانے دو۔ اس نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔

عقبہ اپنی فوج لے کر حضرت خالد کے مقابلہ میں آیا۔ انہوں نے بھی صفت آرائی کی اور دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہوئی۔ خالد نے بڑھ کر عقبہ کو گرفتار کر لیا۔ اس کی فوج شکست کھا گئی۔ ہیران یہ دیکھ کر قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نصاریٰ نے عرب کی شکست خوردہ جمیعت جب وہاں پہنچی تو دیکھا ایرانی فوج جا چکی ہے۔ مجبوراً قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئی۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور بلا امان دیتے ہوئے ان سب کو قتل کر ڈالا۔

اس قلعہ میں چالیس لڑکے لڑے جو انجیل پڑھا کرتے تھے۔ انہیں میں سے  
 موسیٰ ابن نصیر فاتح اندلس کے باپ نصیر۔ محمد ابن سیرین کے باپ سیرین اور  
 حمران مولیٰ عثمان وغیرہ تھے۔ یہ اسلامی فوج میں تقسیم کئے گئے۔

یہاں خالد کو عیاض بن غنم کا خط ملا جو شمالی عراق میں دومۃ الجندل  
 کا محاصرہ کئے ہوئے تھے انہوں نے ان کو بلا یا تھا۔ حضرت خالد نے ان کو  
 مندرجہ ذیل مختصر جواب لکھا۔

از جانب خالد بنام عیاض۔ میں تمہارے ہی پاس آ رہا ہوں

دومۃ الجندل میں نصارائے عرب کی بہت بڑی جمعیت تھی۔ جب حضرت  
 خالد کے آنے کی ان کو خبر ہوئی تو ان کے رئیس الکید بن عبدالملک نے ان لوگوں  
 سے کہا کہ میں خالد کو خوب جانتا ہوں۔ ان سے زیادہ مبارک قال اور تیر دست  
 سپہ سالار میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی فوج خواہ کم ہو یا زیادہ۔ ممکن نہیں کہ خالد  
 کے مقابلہ میں شکست نہ کھا جائے۔ لہذا تم لوگ میری بات مانو اور ان سے صلح  
 کر لو۔ لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی وہ ناراض ہو کر ان کو چھوڑ کر  
 نکلا اور اسی نکلنے میں مارا گیا۔

دومۃ الجندل کا محاصرہ ایک طرف سے عیاض نے اور دوسری طرف سے  
 خالد نے کیا۔ محصورین نے تنگ آ کر شکست کھائی اور سوائے بنی کلب کے جو  
 یتیم کے حلیف تھے اور ان کو عاصم بن عمر دیمتھی نے امان دے دی تھی اور کسی

قتل سے نجات نہ مل سکی۔ اس شہج کے بعد خالد حیرہ واپس چلے آئے یہاں  
 آکر ان کو معلوم ہوا کہ اہل عجم بمبیت فراہم کر کے پھر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں  
 اس لئے دود سے حصید اور خنافس کی طرف روانہ کئے۔ وہاں حسین قدر ایرانی  
 جمع ہوئے تھے۔ ان کو ان دستوں نے بھگا دیا۔ خود حضرت خالد مصبح کی طرف  
 بڑھے وہاں عربی قبائل ان سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے تھے ایک ہولناک  
 جنگ پیش آئی جس میں غنیم نے شکست کھائی۔

مقام فراض میں جہاں شام، عراق اور جزیرہ کی سرحدیں ملتی ہیں وہیں  
 ایرانیوں اور عربوں نے مجتمع ہو کر مفتابہ کیا۔ خالد نے ایک ساتھ سب کو  
 شکست دیدی۔ یہ واقعہ ۵ ہجری تعدہ ۳۱۰ء میں پیش آیا۔ وہاں دل روز  
 رہ کر ۵ ہجری تعدہ کو عاصم بن عمر کو حکم دیا کہ وہ فوجوں کو لے کر حیرہ واپس چلیں  
 اپنے کو ظاہر کیا کہ میں ساقہ پر رہوں گا۔ لیکن وہاں سے چند ساتھیوں کو لے کر سید  
 مکہ پہنچے اور حج کر کے حیرہ میں اس قدر جلد واپس آئے کہ ابھی تک فوج کا آخری  
 حصہ یعنی ساقہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ چنانچہ اسی کے ساتھ ہو گئے اور بجز  
 ان اشخاص کے جو ان کے ساتھ تھے اور کسی کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ یہ حج کر آئے ہیں۔  
 حضرت ابو بکرؓ کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو انھوں نے خفگی کا اظہار کیا کہ اس طرح  
 فوج کو چھوڑ کر جا مناسب نہ تھا۔

اس کے بعد سرمانِ خلافت بلا کہ تم شام کی طرف جاؤ اور اسلامی فوج

میں جو بیروٹک میں ہے شریک ہو۔

حضرت خالد عراق میں ۱۴۱ھ میں ہے۔ ان کے ساتھ کل دس ہزار فوج تھی اور اسی قدر دیگر اسلامی اہل اہل و عیال وغیرہ کے ساتھ۔ اس قلیل عرصہ میں اور اس قلیل سپاہ کے ساتھ انہوں نے وہ کارہائے نمایاں کئے کہ آج تک دنیا کا کوئی سپہ سالار ایسے کام نہیں کر سکا۔ مقام ابلہ سے فراغ تک سارا علاقہ ایران جیسی زبردست سلطنت سے چھن گیا۔ اور ایرانیوں، عربوں نیز رومیوں سے متعدد مواقع پر جنگ پیش آئی۔ ہر ایک میں وہ فاتح ہے کسی میں بھی مغلوب نہیں ہوئے جس طرف بڑھتے تھے ان کا نام آگے آگے جاتا تھا۔ اور فتح ساتھ ساتھ خط واپسی کو ہمیشہ محفوظ رکھتے تھے۔ تاکہ دشمن پیچھے سے نہ آسکے اور جب کسی مقام کو فتح کرتے تھے تو وہاں کی رعایا کی اصلاح معاملات و صوبی خراج اور امن و امان قائم رکھنے کے لئے اہل اہل و عیال اپنی طرف سے مقرر کرتے تھے۔ کاشتکاروں اور پیشہ دروں کے ساتھ رحم اور ہربانی کا برتاؤ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ ایرانی حکومت کے مقابلے میں عربی حکومت کو زیادہ پسند کرنے لگے اور امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ رعایا کے ساتھ جس قدر ان کا برتاؤ نرم تھا اسی قدر دشمنوں کے لئے وہ سخت تھے جب غنیمت کی فوج کو دیکھ لیتے تھے تو صبر نہیں کر سکتے تھے بلکہ فوراً حملہ کر دیتے تھے اور بیشتر ان کے سرداروں سے مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ اس کے بعد

لڑائی زیادہ طول نہیں کھینچی تھی۔

الغرض حضرت خالد کے کارنامے فتوحات اسلام کی تاریخ کی پیشانی کا نور ہیں۔

**جنگ روم** شام کے غسانی بادشاہ رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ اور انہوں نے عیسوی مذہب بھی اختیار کر لیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرجیل بن عمرو غسانی کے نام دعوت اسلام کا خط حارث بن عمیر رومی کے ہاتھ بھیجا تو اس نے ان کو قتل کر ڈالا۔ ان کے قصاص کے لئے ۳۰۰۰۰ میں مدینہ سے تین ہزار فوج بھیجی گئی رومی اور غسانی فوجوں سے جن کی تعداد ایک لاکھ سے کم نہ تھی مقام موتہ میں مقابلہ ہوا اسی لڑائی میں ید بن حارث اور جعفر طیار وغیرہ شہید ہوئے تھے آخر میں حضرت خالد اس قلیل فوج کو غنیم کے نرغہ میں سے نکال لائے اور وہیں چلے آئے اس کے بعد غسانیوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ قیصر روم نے بھی ان کی امداد کے لئے چالیس ہزار فوج دی۔ آنحضرت اس کی خبر پا کر تیس ہزار فوج لیکر ۱۰۰۰۰ میں خود تبوک تشریف لے گئے۔ لیکن وہ لوگ مقابلہ کیلئے نہ آئے۔ مدینہ میں غسانیوں کی طرف سے متوحش خبریں پہنچا کرتی تھیں اور ہر وقت ان کے حملہ کا خطرہ رہتا تھا۔ اس وجہ سے آنحضرت نے دوبارہ ۱۰۰۰۰ میں ایک لشکر ان کے مقابلہ کیلئے تیار کیا اور اس کا سردار سامہ کو مقرر کیا جن کے پاس



حضرت زید مرتبہ موتہ میں سپہ سالار تھے اور شہید ہو گئے تھے یہ شکر آپ کی  
 علامت کی وجہ سے رک گیا۔ وفات نبوی کے بعد حضرت ابو بکر نے اس کو بھلا  
 لیکن اس سے غسانیوں اور رومیوں کو جو خطرہ تھا اس میں کمی نہیں آئی کہ  
 وہ ایک نہ ایک دن مدینہ پر حملہ کرنے کے واسطے تیار تھے۔ اس لئے  
 حضرت ابو بکر نے سال ۲ کے آخر میں چار بڑے سپہ سالار منتخب کئے۔ عمرو بن  
 عاص۔ یزید بن ابی سفیان۔ ابو عبیدہ بن الجراح اور شریح بن حسنا  
 میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک فوج نامزد کی۔ اور ان کے راستے متعین کر کے  
 شام کی طرف روانہ کیا۔

حضرت عبیدہ حمص۔ عمرو فلسطین۔ یزید دمشق۔ اور شریح اردن کی طرف  
 بھیجے گئے۔ اس تمام فوج کی تعداد جوان چاروں سپہ سالاروں کے ساتھ  
 ۳۶ ہزار تھی۔

جب رومیوں کو اسلامی فوج کی آمد کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے مقابلہ  
 کی فکر کی۔ ہرقل اس زمانہ میں حمص میں مقیم تھا اس نے یہ بھی سنا کہ اسلامی فورسز  
 الگ الگ چار حصوں میں منقسم ہے اس لئے یہ کوشش کی کہ یہ فوجیں مجتمع نہ ہوں  
 پامیں اور ہر ایک حصہ کے مقابلہ میں اس سے دگنی تعداد میں فوج بھیج دی جائے  
 مسلمان امرا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انھوں نے ہاہم خط و کتابت کی  
 عمرو بن عاص سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے انھوں نے ہر ایک کو یہ لکھا کہ

سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سب ایک جگہ مجتمع ہو جائیں یہ رائے سب لوگوں نے پسند کی۔ اطلاقاً ایک تحریر خلیفہ کے پاس بھیجی گئی انہوں نے بھی منظور کیا اور لکھا کہ سب لوگ یرموک میں پہنچ کر مل جائیں اور ہر ایک اپنی اپنی فوج کو مناز پڑھائے ہر قل نے اپنے حقیقی بھائی تذارق کو ۹۰ ہزار فوج دے کر عمرو بن عاص پر جرحہ کو بھی اسی قدر جمعیت کے ساتھ زید بن ابی سفیان اور راقص کو شہر حلیل اور تقار کو ۲۰ ہزار لشکر کے ساتھ ابو عبیدہ کے مقابلہ میں بھیجا۔ مگر جب اس مسلمانوں کے اجتماع کا حال معلوم ہوا تو اس نے بھی ان فوجوں کو حکم بھیجا کہ مجتمع ہو کر لڑیں۔ مقام واقوصہ میں وہ تمام فوجیں آکر جمع ہوئیں ان کے ایک طرف دریا اور پس پشت پہاڑ تھا۔ اس محفوظ مقام کو انہوں نے اس وجہ سے پسند کیا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے دل مطمئن اور بے خوف ہو جائیں رومی فوج کی کل تعداد امام طبری کے بیان کے مطابق دو لاکھ پالیس ہزار تھی۔

اسلامی فوج نے بھی یرموک سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے مورچہ جمالیہ اب رومی فوج بالکل محصور ہو گئی اور ان کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ یہ حالت ماہ صفر سے لے کر ربیع الثانی تک رہی۔ مسلمانوں نے دربار خلافت سے امداد طلب کی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کو لکھا کہ وہ عراق کی ہمم پر

مثنیٰ بن حارثہ کو چھوڑ کر خود شام میں جا کر مسلمانوں کی مدد کریں وہ  
ہر فوج لے کر تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے۔

جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مسلمان امرار اگرچہ ایک جگہ مجتمع ہیں  
اپنی اپنی فوجیں لے کر الگ الگ دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں۔ نیز  
یہ بھی معلوم ہوا کہ رومی عنقریب ایک متفقہ حملہ کرنے والے ہیں اس وجہ  
اسلامی فوج کے امرار کو جمع کیا اور کہا کہ

آج کا دن ایک ایسا دن ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اس میں فخر اور  
شرافت کے خیال کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لئے کوشش کرنی چاہیے  
دشمن ترتیب اور نظام کے ساتھ آمادہ جنگ ہے اس لئے ہم کو  
مناسب نہیں کہ ہم متفرق اور منتشر ہو کر جنگ کریں یہ زیادہ رائے قرار دینا  
لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی رائے ظاہر کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ

میری رائے یہ ہے کہ ہم الگ الگ نہ لڑیں۔ بلکہ سب ایک امیر کے  
 ماتحت ہو جائیں اس سے کسی کی شان میں فرق نہیں پڑے گا۔ اور  
نہ اللہ اور نہ خلیفہ رسول کے نزدیک اس کا نتیجہ کھٹ جائے گا۔ رومی  
ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں اگر ہم نے ان کو پیچھے ڈھکیں  
دیا تو پھر برابر ان کو دباتے چلے جائیں گے اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے  
ہم کو شکست دیدی تو پھر ہمارا کہیں ٹھکانا نہیں رہے گا۔ مناسب یہ ہے

کہ ہم باری باری سے امیر ہوں ایک شخص آج دوسرا کل اور تیسرا ہوں۔

اور آج کے روز تمام فوج کا امیر مجھ کو بنا دو۔

سب لوگوں نے اس بات کو منظور کیا حضرت خالد نے فوج کو اس طرح  
 تہیب دیا کہ عربی فوج اس سے پہلے کبھی اس طرح پر مرتب نہیں کی گئی تھی انہوں  
 نے سارے لشکر کو ۳۸ دستوں میں تقسیم کیا ۱۸ دستے قلب میں رکھے اور باقی  
 عبیدہ کو متعین کیا اس دستے میں پیمانہ پر اور ان کا سردار عمرو بن عاص اور تیز بیل  
 بنایا اور اس دستے میں سر پر زید بن ابی سفیان کی سرکردگی میں رکھے ہر سر  
 تے پر ایک ایک کا آزمودہ امیر مقرر کیا جو مہینہ یا مہینہ یا مہینہ کے سپاہیوں  
 احکام پر اپنے دستے کو حرکت دے۔ ابوسفیان بن حرب کو نقیب اور ابو  
 وار کو تاصی اور مقداد کو تارسی مقرر کیا۔

اسلامی فوج میں یہ قاعدہ تھا کہ جنگ سے پیشتر سورۃ انفال سنائی  
 جاتی تھی یہ کام قاری کا تھا۔ نقیب اپنی تقریر سے فوج کے ہوش کو بڑھاتا تھا  
 انچہ ابوسفیان ہر ہر دستے کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے تھے۔

اللہ انشاء تم جو انان عرب اور حامیان اسلام ہو اور وہ رومی سپاہی  
 اور شرک کے مددگار ہیں یا اللہ آج کے دن ایک یادگار دن ہے تو

اپنی مدد اپنے ہندوں پر نازل فرما۔

اسلامی فوج کے ایک شخص نے حضرت خالد سے کہا کہ رومیوں کی تعداد

بہت زیادہ ہے۔ اور مسلمان کم ہیں انہوں نے جواب دیا کہ مسلمان بہت زیادہ  
 اور رومی بہت کم ہیں فوج کی کمی یا زیادتی تعداد پر نہیں بلکہ فتح اور شکست پر  
 رومیوں نے بھی مسلمانوں کے مقابلہ میں نہایت شان کے ساتھ  
 آرائی کی۔ حضرت خالد نے قطیف کے دونوں بازوؤں کو جن پر حکمران اپنی  
 اور قحطاق بن عمرو تھے حکم دیا کہ تیرا اندازی کریں اس کے بعد عام حملہ کیا۔  
 خود قطیف کے آگے تھے۔ اپنی فوج کو لئے ہوئے رومی سواروں اور پیادوں  
 درمیان میں پہنچ گئے پہلے غنیم کے سواروں نے شکست کھائی اور ایک  
 بھاگ نکلے۔ مسلمان اپنی جگہ پر جمے رہے اور ان کو بھاگنے کا راستہ  
 اس کے بعد اسلامی فوجیں پیادوں پر ٹوٹ پڑیں اور ان کو پیچھے ہٹا دیا۔ چونکہ  
 کے پس پشت پیار تھا۔ اس لئے ادھر راستہ نہ ملا بہت سے مارے گئے  
 اور یقیہ دریا کی طرف پلٹے۔ مسلمانوں نے ان کو یہاں تک دبایا کہ طبری کے  
 کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار ایرانی میں غرق ہو گئے۔

لڑائی دن بھر اور رات بھر جاری رہی اور جب صبح ہوئی تو حضرت  
 رومی سپہ سالار کے حیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔

بہت سے مسلمانوں نے اس جنگ میں نمایاں کام انجام دیا۔  
 چلا کر کہا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا۔ کیا آج میں  
 رومیوں سے بھاگوں گا۔ کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے



دور ہزار بن ازور وغیرہ چار سو بیبا اور جاہل نماز مسلمانوں نے بیعت کی۔ اور رات بھر خالد کے خیمے کے سامنے لڑتے رہے ان کے صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ سب کے سب زخموں سے چور تھے۔ صبح کے وقت حضرت عکرمہ اور ان کے بیٹے عمر و امٹا کر حضرت خالد کے پاس لائے گئے۔ انہوں نے دونوں کا سر سنی پران پر رکھا۔ ان کے چہروں سے خاک جھاڑتے تھے اور حلق میں پانی پکاتے تھے۔ اسی حالت میں ان کی روئیں عالم قدس کو پرواز کر گئیں۔

مسلمان خواتین بھی اس جنگ میں اپنا دستہ الگ بنا کر رومیوں سے لڑیں بہت سے کاندروں کو تہ تیغ کیا۔ دن نکلنے نکلنے رومیوں سے میدان صاف ہو گیا۔ مسلمان شہداء کی تعداد تین ہزار تھی۔

اس شکست کی خبر جب ہرقل کو پہنچی تو حمص سے چلا گیا اور کہا کہ اے ملک شام تجھ کو یہ میرا آخری سلام ہے۔

رومیوں نے اسلامی فوج کا حال دریافت کرنے کے لئے ایک عرب جاسوس بھیجا تھا جب وہ واپس آ گیا تو اس نے جو الفاظ مسلمانوں کی نسبت کہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں اس نے کہا کہ:-

وہ لوگ رات میں فرشتے اور دن میں دیو ہیں۔ حق پرستی کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کا شہزادہ بھی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ لیتے ہیں اور زنا کرے تو سنگسار کر دیتے ہیں۔

اشعار جنگ میں مدینہ سے ایک قاصد خط لے کر آیا جس میں حضرت ابو بکر صدیق کی وفات اور حضرت عمر کی خلافت کی اطلاع تھی۔ نیز یہ کہ حضرت خالد سپہ سالاری سے معزول اور ابو عبیدہ ان کے بجائے سپہ سالار نام کئے گئے۔ حضرت خالد نے یہ خط حضرت ابو عبیدہ کو مخفی طور پر دکھلا دیا اور اس خیال سے اشاعت نہیں کی کہ فوج میں بددلی نہ پیدا ہو جائے جب فتح حاصل ہو چکی تو اس خط کا اعلان کیا اور حضرت ابو عبیدہ کو امیر تسلیم کیا۔

یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ اسلامی فوج جس کی تعداد صرف چھیالیس ہزار تھی کس طرح اپنے سے پانچ گنی رومی فوج پر غالب آگئی حالانکہ رومی فوج باقاعدہ مرتب ساز و سامان سے درست جنگ دیدہ اور کار آزمودہ تھی اور کئی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ایرانیوں پر نمایاں فتح حاصل کر چکی تھی۔

اس کا سبب جہاں تک معلوم ہوتا ہے یہ تھا کہ مسلمان سپاہی جوان جنگوں میں شریک ہوتا تھا اس کے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا تھا کہ انجام کار فتح ہماری ہوگی۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیات اور آنحضرت کے اقوال سے ان فتوحات عظیمہ کی بشارتیں اس کے کانوں میں پڑ چکی تھیں یہ اطمینان قلب اسکے حق میں تائید آسمانی کا کام دیتا تھا۔ علاوہ بریں وہ اس بات پر کامل یقین رکھتا تھا کہ جنگ میں کام آگیا تو شہید نہیں تو غازی ہوگا لہذا اس کو نہ تو موت کی پروا ہوتی تھی۔ نہ وہ کسی خطرہ سے جی جراتا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی

تھی کہ ان لڑائیوں میں مسلمانوں کو سپہ سالار بھی ایسے مل گئے تھے کہ دنیا کی تاریخ ان کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ خود حضرت خالد کو دیکھئے ان کے کارنامے صدر اول کی تاریخ کے صفحات کی زینت ہیں۔

حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں جو سوا دو سال تقاریر میں اور ایسے ہی پرستوحات کا سلسلہ ہیں تک پہنچا تھا۔

خلیفہ اول کے عہد میں صرف جزیرہ عرب اسلامی انتظام کے **نظامِ داخلی** ماتحت تھا۔ شام و عراق میں جنگ قائم تھی۔ وہاں کے مفتوحہ علاقوں کا انتظام خود امراء شکر سے متعلق تھا۔

کل عرب و سب حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر حصہ میں خلیفہ کی طرف سے ایک امیر مقدمات کے فیصلے۔ حدود شرعیہ کے اجراء اور نماز کے لئے مقرر تھا۔ خود ہی امیر تاعنی بھی ہوتا تھا۔ صوبوں کی تفصیل مع امراء کے حسب ذیل ہے۔  
(۱) مکہ۔ یہاں کے امیر عتاب بن اسید تھے جو زمانہ رسالت میں مقرر ہوئے تھے۔

(۲) طائف۔ عثمان بن ابی العاص یہ بھی عہد رسالت سے مامور تھے۔

(۳) صنعاء۔ ہاجر بن ابی امیہ نے رذہ کے بعد جب اس کو فتح کیا تو یہاں کے والی مقرر کئے گئے۔

(۴) حضرموت۔ زیاد بن ولید۔

(۵) خولان - یعلیٰ بن امیہ

(۶) زبیدہ - زبید، ابو موسیٰ اشعری

(۷) جمد - معاذ بن جبل

(۸) جریح - عبداللہ بن ثور

(۹) بکرین - علام بن حضری

(۱۰) بجران - جریر بن عبداللہ بکلی

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی کو وزیر نہیں بنایا تھا۔ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے مشیر تھے اور مقدمات کے بھی فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ جب تک شام کی ہم پر نہیں بھیجے گئے تھے امین بیت المال رہے۔ فرامین حضرت زید بن ثابت لکھتے تھے اور خطوط اور حالات وغیرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہی حاضر ہو۔

خلافت سے قبل حضرت ابو بکر کا ذریعہ معاش تجارت تھی خلیفہ  
**خلیفہ کا گزارہ** ہو جانے کے بعد چھ مہینے تک وہ تجارت کرتے رہے اور

اسی سے اپنا کام چلاتے رہے جب انہوں نے دیکھا کہ خلافت کی ہمت سے تجارت کی فرصت نہیں مل سکتی تو اس کو چھوڑ دیا۔

ان کے معمولی اخراجات اور عیال کے گزارہ کے لئے بیت المال سے چھ ہزار درہم یعنی تقریباً ڈیڑھ ہزار روپیہ سالانہ مقرر کیا گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وصیت کی کہ میری فلاں زمین بیچ کر وہ ساری رقم جو آج تک

بیت المال سے وصول ہوئی ہے وہیں کر دی جائے۔ ان کا خیال غالباً یہ تھا کہ جو رقم میں نے لی ہے اس کے مطابق امت کی خدمت نہیں کر سکا۔

حضرت عمرؓ نے کہا کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء پر بڑا

بوجھ ڈال لیا۔

اسلام سے پہلے انھوں نے دو نکاح کئے تھے ایک قبیلہ نبت بیت ابو بکرؓ عبدالغزالی سے جو قبیلہ قریش میں سے تھیں۔ ان سے عبد اللہ پیدا ہوئے۔ پھر حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ کا لقب ذات النطاقین ہے۔ قبیلہ خزاعہ سے تھیں ان کو طلاق دے دی۔

زمانہ اسلام میں دو نکاح کئے پہلے اسماء بنت عمیس کے ساتھ جو حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوہ تھیں ان سے محمد پیدا ہوئے۔ دوسرا جلیہ بنت خارجہ سے جو قبیلہ خزرج میں سے تھیں ان کے بطن سے ایک بیٹی ام کلثوم حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں۔

۶ رجب ۱۱ جمادی الثانی ۱۳ھ کو بخارا آیا اور دو ہفتہ تک برابر آتا رہا۔  
**وفات** ۱۱ رجب ۱۱ جمادی الثانی ۱۳ھ مطابق ۲۲ اگست ۶۳۲ء کو شام کے وقت انتقال فرمایا۔ عمر ۶۳ سال کی تھی۔ مدت خلافت ۶ سال ۳ ماہ ایک روز۔

نماز جنازہ حضرت عمرؓ نے پڑھائی اور حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اس طرح کہ ان کا سر آنحضرتؐ کے دوش مبارک کے



بالمقابل رہے دفن کئے گئے۔

**فضائل ابوبکر** تمام مورخ متفق ہیں کہ حضرت ابوبکر بڑے دولتمند اور  
 بکرم ہیں نہایت معزز و محترم تھے انساب قریش اور ان کے  
 حالات سے سب سے زیادہ باخبر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد  
 مردوں میں سب سے پہلے یہی اسلام لائے اور اپنی دولت آنحضرت کی  
 خدمت اور حمایت میں صرف کر دی۔ انہیں کی کوشش سے بڑے بڑے  
 سرداران قریش اسلام لائے۔ ہجرت کے موقع پر آنحضرت کی رفاقت کی تمام  
 فضیلتیں انہی کو حاصل ہوئیں۔ مدینہ تک رفیق طریق رہے اور اپنا بقیہ سرمایہ  
 بھی ساتھ لیتے گئے کہ آنحضرت کے کام آئے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا لیکن ابوبکر کے احسانات  
 مجھ پر باقی رہ گئے۔ ان کا بدلہ ان کو قیامت میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ تقویٰ زہد  
 عقل اور متانت میں بھی وہ ممتاز تھے۔

انہیں فضائل کی وجہ سے وہ اس امت کے تمام لوگوں سے بلکہ بعد انبیاء  
 کے کل بنی نوع انسان سے افضل تسلیم کئے گئے۔ اور اس کی پوری شہادت  
 ان کے کارناموں سے ملتی ہے۔ فتنہ ارتداد کو جس اولوالعزمی اور دانشمندی  
 کے ساتھ کھڑا ہی مدت میں اٹھول لے لیا وہ ان کی اس عظمت اور فوقیت  
 کا جو جماعت صحابہ پر ان کو حاصل کھی نمایاں ثبوت ہے۔ رضی اللہ عنہ

## حضرت عمرؓ کی خدمت میں عرض کرنا

جب حضرت ابو بکرؓ بیمار ہوئے اور ان کو اپنی موت کا احساس ہوا۔ تو مصلحت امت کے خیال سے ان کی یہ رائے ہوئی کہ کسی کو خلیفہ منتخب کر جائیں ان کے نزدیک حضرت عمرؓ بن خطابؓ خلافت کے لئے زیادہ موزوں تھے لیکن مزید احتیاط کے خیال سے بڑے بڑے صحابہ سے بھی اس امر میں مشورہ لینا زیادہ مناسب سمجھا۔

سب سے پہلے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو بلایا اور پوچھا کہ عمرؓ کی نسبت تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کو سب سے افضل سمجھتا ہوں لیکن ان کے مزاج میں کسی قدر سختی ہے۔ فرمایا کہ وہ سختی اس لئے کرتے ہیں کہ تمہارے کو نرم دیکھتے ہیں اگر خلافت ان کے سپرد کر دی جائے گی تو انکی سختی خود بخود کم ہو جائے گی پھر حضرت عثمانؓ کو بلایا اور ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری بہ نسبت آپؓ خود ان سے زیادہ واقف ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اصرار کیا کہ تم اپنا خیال ان کے بارے میں ظاہر کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں جہاں تک جانتا ہوں

ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی شخص ان کے برابر نہیں اس کے بعد اور لوگوں سے بھی دریافت کیا۔

الغرض بعد مشورہ <sup>پہلے</sup> یہی قرار پائی کہ حضرت عمر بن خلیفہ بنے جائیں۔ ایک روز صحابہ حضرت ابوبکرؓ کے مکان کے پاس جمع تھے وہ بیماری میں ایک شخص کے سہارے سے اپنے بالا خانہ پر چڑھے اور ان سب لوگوں کو مخاطب کیے کہا کہ کیا تم اس شخص کو پسند کر گئے جس کو میں تمہارے لئے مقرر کر دوں میں نے غور اور مشورہ میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے اور اپنے کسی قرابت دار کو نہیں تجویز کیا ہے بلکہ عمر کو اپنا جانشین بنانا ہوں سب لوگوں نے کہا کہ ہم کو منظور ہے اس کے بعد حضرت عثمان کو بلایا اور مندرجہ ذیل عہد نامہ لکھوا دیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ حضرت ابوبکرؓ کی وفات کی آخری زندگی کا ہے جبکہ وہ دنیا سے سفر کر رہا ہے اور آخرت کی پہلی منزل میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ایسی ساعت ہے کہ جس میں کافر بھی مومن اور فاجر بھی عقیدت مند اور جھوٹا بھی سچا ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہارے واسطے عمر کو خلیفہ منتخب کیا لہذا ان کی بات مانو اور ان کی اطاعت کرو اس امر میں اللہ اور رسول کی اطاعت نیز اپنی ذات اور خود تمہاری خیر طلبی کی میں نے پوری کوشش کی ہے اگر وہ

عدل کریں تو ان کی نسبت میرا بیگانہ ہے اور یہی علم ہے اور اگر  
اس کے خلاف کریں تو ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ میری نیت  
خیر خواہی کی ہے۔ باقی میں غیب نہیں جانتا۔

پھر حضرت عمر کو نصیحتیں اور ہدایتیں کیں اور ان کے حق میں دعوے خیر  
فرمائی۔ حضرت عمر کی خلافت کی ابتدا یوم شنبہ ۲۲ جمادی الثانی ۳۱ھ  
مطابق ۲۳ اگست ۶۳۴ء سے ہوئی۔

حضرت عمر بن خطاب بن نفیل قبیلہ بنی نضیر کی شاخ بن عدی ہیں  
ترجمہ عمر | تھے ان کی والدہ خنتم بنت ہشام مخزومی تھیں آنحضرت کی ولادت  
کے تیرہ سال بعد پیدائش ہوئی۔ ابتدا ہی سے شہامت، جرأت اور حق گوئی میں  
ممتاز تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اول اول یہ رسالت کے  
قابل نہ ہوئے بلکہ مسلمانوں کے مخالف ہو کر ان کو ایذا دینے شروع کی جس مسلمان یہ  
قابو چلتا اس کو مارتے اور ستاتے۔ ایک دن اس بات پر تیار ہوئے کہ جا کر خود نبی  
صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔

آنحضرت اس روز ارقم مخزومی کے مکان میں مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ یہ تلاوت  
کے لیے کراہی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں معلوم ہوا کہ خود ان کی بہن اور بہنوں مسلمان ہو  
ہیں اسی غصہ میں خود بہن کے گھر میں پہنچے وہ اس وقت قرآن کی ایک سورہ تو  
قرطاس پر لکھی ہوئی کھنی پڑھ رہی تھیں ان کو دیکھ کر وہ اوراق چھپا دیئے۔

انہوں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھیں اور میں نے سنا ہے کہ تم نے آباؤ  
دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر ان کو مارا بیاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا اور  
بدن خون سے رنگین ہو گیا۔ انہوں نے جوش میں آ کر کہا کہ میں بے شک  
مسلمان ہو گئی ہوں اور اس دین کو کسی طرح نہیں چھوڑ سکتی۔

بہن کا خون دیکھ کر غصہ کم ہوا۔ قرآن کے اوراق مانگ کر پڑھنا شروع کیا  
ہدایت کا وقت آچکا تھا۔ توفیق الہی شامل حال ہوئی ان کے پڑھتے ہی اسلام  
کی حقانیت دل میں بیٹھ گئی اور آنحضرت کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو گئے۔  
اگرچہ ان سے پہلے چالیس پچاس آدمی مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہیں  
اسلام لانے سے مسلمانوں کو طاقت اور شوکت حاصل ہوئی یہ اہل قریش سے  
مقابلہ کے لئے کھڑے ہو گئے اور ان کی بدولت مسلمان خانہ کعبہ میں جہاں وہ  
اس سے پہلے جانے پر مار کھاتے تھے نماز پڑھنے لگے۔

جب ہجرت مدینہ شروع ہوئی تو مسلمان کافروں کے خوف سے مخفی طور پر  
سے نکل کر جاتے تھے لیکن حضرت عمر بن مسلمانوں کو ساتھ لیکر علانیہ نکلے اور قریش  
کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ہجرت کرتا ہوں۔ جس کو منظور ہو کہ اس کی ماں اس پر  
نوحہ کرے وہ اس وادی میں آ کر بچھو کوڑکے۔ کسی کافر کی ہمت نہ پیری کہ سناٹے جاتا۔  
ہجرت کے بعد آنحضرت کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ بعض  
بعض موزوں حضور کو مشورے بھی دیتے رہے اور کئی بار آیات قرآنی ان کے مشورے



کے مطابق نازل ہوئیں۔

یہ اور حضرت ابو بکرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بمنزلہ دو وزیروں کے تھے۔ آنحضرت نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ بھی قائم کیا اور ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ سے ان کے شوہر کے مقتول ہو جانے کے بعد نکاح کر لیا۔

خلیفہ اول کے زمانہ میں بھی یہ بطور مشیر کے رہے۔ فصل قضایا کا کام بھی انھیں کے سپرد تھا۔ ان کی صحبت سے ان میں تحمل اور دور اندیشی کی صفت زیادہ بڑھ گئی۔ اور مزاج میں کسی قدر نرمی آگئی۔

خلیفہ اول کی وفات کے بعد جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تو منسبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ :-

**خطبہ خلافت**

عرب کی مثال اس اونٹ کی ہے جو اپنے سدا بان کا مطیع ہو۔ اس کے رہنا کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کو کس طرف لے جا رہے ہیں ریت کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کو میدھے راستے پر لے چلوں گا! اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امت اسلامیہ کی اس عہد میں کس قدر صحیح تشخیص انھوں نے کی۔ کیونکہ وہ ایک فرماں بردار جماعت تھی جو حکم دیا جاتا تھا وہی کرتی تھی اور جس بات کی ممانعت کی جاتی تھی اس سے باز رہتی تھی اس لئے ساری ذمہ داری خلیفہ امت پر عائد ہوتی تھی کہ وہ کس راستے پر اس کو لے چلتا ہے یہی وجہ تھی کہ انھوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔

# فتوحات

حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو عراق سے جب شام کی طرف  
 بھیج دیا اور نصف فوج لے کر وہ روانہ ہو گئے تو مثنیٰ بن حارثہ باقی

ایمان

نصف فوج کو لئے ہوئے حیرہ میں مقیم رہے۔ بہمن جاوید یہ لشکر لے کر ان کے  
 مقابلہ کے لئے آیا۔ اہل اہل کے قریب مثنیٰ نے اس کے سامنے صف آرائی کی  
 سخت جنگ کے بعد اس کی شکست دی اور مدائن تک تعاقب کیا۔ پھر حیرہ میں  
 واپس آ گئے۔ اس عرصہ میں دربار خلافت سے کسی قسم کی اطلاع اور مدد نہ پہنچی  
 اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ ایرانی ایک لشکر ہمارے مقابلہ کے لئے تیار کر رہے  
 ہیں۔ اس لئے بشیر بن خصاصیہ کو اپنی جگہ مقرر کر کے خود مدینہ آئے کہ  
 خلیفہ کو ان باتوں کی اطلاع دیں اور ان سے درخواست کریں کہ جو مسلمان  
 مرتد ہو چکے ہوتے اور اب ان کی توبہ اور تداومت ظاہر ہو چکی ان کو جنگ میں  
 شریک ہونے کی اجازت دینی چاہئے۔

جس روز مدینہ پہنچے وہ آپ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ انہوں نے  
 ان حالات کو سن کر حفا کو تاکید کی کہ مثنیٰ کے لئے فوج جمع کرنا۔  
 حضرت عمر کی بیعت کے لئے جب دیار و مصر کے لوگ آئے تو  
 انہوں نے ان کے مجمع میں وعظ فرمایا اور ان کو جہاد کی ترغیب دلائی۔ عربوں

پر چونکہ زمانہ قدیم سے ایرانیوں کا رعب چھایا ہوا تھا۔ اس لئے ان کے مقابلہ میں جانے سے ڈرتے تھے۔ مثنیٰ نے اٹھ کر کہا کہ :-

لوگو! تم ایرانیوں کو خاطر میں نہ لاؤ۔ ہم نے ان کو آزما لیا ہے اور ان کے اوپر غالب رہے ہیں۔ ان کے زر خیز غلاقتے ہم نے چھین لئے ہیں اور وہ ہم سے دب گئے ہیں۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے لوگوں کو جوش دلایا۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا۔ لہذا مسلمان فتح پا کر رہیں گے۔ روئے زمین انھیں کی وراثت ہے۔ اللہ کے نیک بندے کدھر ہیں؟

سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ <sup>ثقفی</sup> سے کہا کہ میں اس کے لئے تیار ہوں۔ ان کے بعد بہت سے لوگ آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے ابو عبیدہؓ ہی کو سب کا سردار مقرر کیا۔ کیونکہ وہی سب سے پہلے اس جنگ کے لئے تیار ہوئے تھے۔ لیکن چونکہ وہ صحابی نہ تھے اور اس جمعیت میں بہت سے صحابہ شریک ہو گئے تھے اس وجہ سے لوگوں کو یہ اعتراض پیدا ہوا کہ صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے غیر صحابہ کو کیوں امیر بنایا جائے گا۔ اس پر عمرؓ نے اس تقرر میں تبدیلی کرنی مناسب نہ سمجھی مگر ابو عبیدہؓ کو یہ تاکید کر دی کہ اسے ساتھ صحابہ ہیں ان کی بات سننا اور ان کو مشوروں میں شریک کرنا۔

اس زمانہ میں ایران کے تخت پر ملکہ آوزی دخت تھی۔ اس نے فارس کے ایک نامور سپہ سالار رستم کو کل فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اور جنگ کے تمام اختیارات اس کے سپرد کر دیئے۔

رستم نے پہلا کام یہ کیا کہ عراق کے دیہاتوں میں ہر طرف اپنے آدمیوں کو بھیج کر ایرانیوں کو مذہبی اور قومی حمیت کا جوش دیا اور مسلمانوں سے برشتہ کر دیا۔ یہاں تک کہ فرات کے سواحل کے علاقے جو املائی قبضے میں آچکے تھے پھر ہاتھ سے نکل گئے۔

ایران سے دو فوجیں نرسی اور جابان کی ماتحتی میں روانہ ہوئیں۔ جابان تمارق میں پہنچ کر خمیہ زن ہوا۔ ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر پہلے ہی حملہ میں اس کو شکست دے دی۔

جابان کو قبیلہ ربیعہ کے ایک معمولی عرب نے جو اس کو پہچانا بھی نہ تھا گرفتار کر لیا۔ جابان نے اس سے کہا کہ میں بڑھا ہوں تمہارے کس کام آؤں گا اگر تم مجھے امان دے دو تو میں تم کو دو جوان غلام دوں گا۔ اس نے امان دے دی۔ لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی سالار فوج ہے پکڑ کر ابو عبیدہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس سے فریب دے کر امان لے لی ہے ایسے دشمن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ جب ایک مسلمان اس کو امان دے چکا ہے تو اب بد عہدی کسی صورت سے جائز



نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو اس کی فرودگاہ تک پہنچا دیا۔  
 ایرانیوں کی یہ شکست خوردہ فوج مقام کسکر میں زمی کے لشکر میں جا کر  
 شامل ہو گئی۔ ابو عبیدہ اس طرف بڑھے اور مقام سقاظیہ میں لڑ کر اس کو ہزیمت  
 قاش دی۔

اس اطراف کے رؤسا اور دہاقین ابو عبیدہ کے مطیع ہو گئے۔ ایک دن  
 بطور تحفہ کے ان کے لئے قسم قسم کے کھانے پکوا کر لائے۔ لیکن انھوں نے  
 کہا کہ یہ فوج جو خون بہانے میں میرے ساتھ شریک ہے بلا اس کی شرکت  
 کے میں تمہا کوئی چیز نہیں کھا سکتا۔

رستم کو جب اس شکست کی خبر ملی تو اس نے بہمن جاودیہ کے ہمراہ پھر ایک  
 فوج بھیجی اور اس کو درفش کاویانی جو ایرانیوں کے نزدیک فتح کا نشان تھا اور  
 فریدون کے وقت سے خزانہ میں بطور تبرک کے محفوظ رکھتا، عطا  
 کیا۔

فوات کے مشرقی ساحل پر یہ فوج اتری۔ دوسری جانب اسلامی لشکر  
 تھا۔ بہمن نے کہلا بھیجا کہ یا تو تم دریا کو عبور کر کے اس طرف آؤ یا ہم کو اس  
 طرف آنے دو۔

ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم خود اس طرف چل کر لڑیں گے۔ سرداران فوج نے  
 جن میں مثنیٰ وغیرہ بھی تھے، ان کی رائے سے اختلاف کیا۔



اور کہا کہ اس صورت میں ہماری فوج تباہ ہو جائے گی۔ لیکن ابو عبیدہ نے نہیں مانا  
بالآخر کشتیوں کا پل باندھ کر اسلامی فوج دریا کے اس پار گئی۔

ایرانی لشکر میں بہت سے دیوبیکر ہاتھی تھے جن پر گھنٹے بندھے ہوئے  
تھے۔ عربی گھوڑے ان کو دیکھ کر کھڑنہ سکے۔ مجبوراً عرب گھوڑوں پر سے  
کوڑ کر پیادہ ہو گئے۔ ہاتھیوں کے ہودوں کی رسیاں کاٹ کاٹ کر سواروں  
کو خاک پر گرا دیا۔ خود ابو عبیدہ پیل سفید پر جو سب سے بڑا تھا حملہ آور ہونے  
تکو اسے اس کی سوزنڈ پر وار کیا۔ اس نے بڑھ کر ان کو گرا دیا اور سینہ پر پاؤں  
رکھ دیا جس سے پسلیاں چور چور ہو گئیں۔

ایرانی سپہ دستہ کے ساتھ بڑھے چلے آئے تھے اور مسلمان پیچھے  
ہٹ رہے تھے۔ بنی ثقیف کے ایک شخص نے اس نیت سے کہ مسلمان  
واپسی کا خیال چھوڑ دیں اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑیں جا کر پل کی رسیاں  
کاٹ دیں۔ اب جو مسلمان ہلے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے تو پل  
موجود نہیں تھا۔ تقریباً چار ہزار آدمی دریا میں غرق ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ  
دیوار آہن کی طرح ایرانیوں کے مقابلے میں جم گئے اور ان کو روکے رکھا۔ پھر  
بندھوا دیا اور بقیہ فوج کو پار اتار لائے لیکن نو ہزار میں سے صرف تین ہزار بچے تھے  
اس واقعہ کو دیکھ کر یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ ابو عبیدہ کا روٹسار فوج کی رائے  
سے مخالفت کرنا جو کار آزمودہ تھے مناسب نہ تھا۔ اسی کے ساتھ

دوسری غلطی عبداللہ بن مرثد ثقفی سے ہوئی جس نے پُل کاٹ کر واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اگر مثنیٰ ثابت قدمی کے ساتھ نہ جھم گئے ہوتے تو یقیناً تمام اسلامی فوج میں سے کوئی نہ بچتا۔

یہ خبر جس وقت حضرت عمر کو ملی تو انہوں نے مسلسل فوجیں مثنیٰ کی امداد کے لئے روانہ کیں۔ جریر بن عبداللہ کو ان کے قبیلہ کے لوگوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ خود مثنیٰ نے بھی عراق سے ایک فوج مرتب کی اور یہ سارا لشکر بویب میں جمع ہوا۔

رستم نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مہران کو جس نے عرب میں تربیت پائی تھی منتخب فوجیں دے کر روانہ کیا۔ وہ بھی بویب کے متصل پہنچ کر فروکش ہوا۔ دریائے فرات دونوں فوجوں کے درمیان حائل تھا۔ مہران نے مثنیٰ کو لکھا کہ یا ہم کو اس پار آنے دو یا تم خود اس پار آ جاؤ۔ چونکہ واقعہ حبر کی یاد بھی تازہ تھی۔ اس لئے یہ جواب دیا گیا کہ تم خود اس طرف آ جاؤ۔ ایرانی دریا کو عبور کر کے صف آرا ہوئے۔ مثنیٰ نے ان کے مقابلہ میں خالد یہ طریقہ پر اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔

اسلامی فوج میں قاعدہ یہ تھا کہ سردار تین بار اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تھا پہلے نعرہ پر فوج مستعد، دوسرے پر آمادہ، تیسرے پر حملہ اور ہوتی تھی۔ مثنیٰ نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ دوسری ہی تکبیر پر صف سے

آگے بڑھنے لگے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ واقعہ جسیر میں بھاگے تھے۔ آج اس کے کفارہ میں شہادت چاہتے ہیں۔ مثنیٰ نے نیر سے دن لوگوں کو دبا یا۔ اور کہا کہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ دشمن جب آئیں تو ان کو روکو اور بلا وجہ جان نہ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنی جانیں راہ حق میں نہ دے دیں اس وقت تک گناہ سے پاک نہیں ہو سکتے پھر وہ صف میں اپنی جگہ پر آگئے۔ لیکن بالآخر شہادت حاصل کی۔

یہ جنگ نہایت خونخوار تھی۔ ایرانی قومی محبت کے خیال سے بہت جوش و خروش کے ساتھ لڑے۔ لیکن مسلمان ان کے حملہ میں ثابت قدم رہے۔ مثنیٰ نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ مہران کے میمنہ پر حملہ کیا اور اس کو شکست دیتے ہوئے قلب تک پہنچ گئے۔ ایرانی مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھاگے۔ مثنیٰ نے آگے بڑھ کر پل توڑ دیا۔ جب ایرانیوں نے دریا کی طرف راستہ نہ پایا تو پشت پھیر کر دوسری طرف رخ کیا۔ مسلمان تعاقب کر کے دور تک ان کو قتل کرتے چلے گئے۔ قبیلہ تغلب کے ایک شخص نے مہران کو مار ڈالا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر پکارا کہ میں نے مجھ سپہ سالار کا کام تمام کیا۔ اس موقع پر مثنیٰ کی یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انھوں نے فوج کے سامنے اقرار کیا کہ ایرانیوں کو روکنے کے لئے میں نے آگے بڑھ کر جو پل کاٹ دیا تھا یہ اصول جنگ کے خلاف تھا۔ گو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں

سے ہم کو فتح دے دی۔ لیکن آئندہ سے اس امر کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جب تک فراریوں کے روکنے کی پوری قوت موجود نہ ہو اس طرح پران کے راستے میں پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے۔

اس شکست پر ایران میں کہرام مچ گیا اور وہاں کے امرا اور رؤساء مدائن مجتمع ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ عورت کی حکومت

قادسیہ

اور باہمی اختلاف کا نتیجہ ہی ہونا کرنا ہے۔ رستم اور فیروز سے جو ایران کے سب سے بڑے سپہ سالار تھے اور آپس میں دشمنی رکھتے تھے کہا کہ اگر اب بھی تم دونوں متفق ہو کر کام نہیں کرتے تو ہم پہلے تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ وہ بھی موقع کی اہمیت کو سمجھے اور نزاع کو چھوڑ کر متحد ہو گئے۔ آرمی دنت کو تخت سے اتارا اور اس کی بجائے یزدگرد کو جو آپس برس کا تھا بادشاہ بنایا۔ اس کی تخت نشینی سے سلطنت کا سہارا پا کر عراق کے سرحدی مرزبان جن کو مسلمان فتح کر چکے تھے پھر باغی ہو گئے۔

حضرت عمرؓ نے یہ حالات سنے تو دشمنی کو لکھا کہ اپنی فوجوں کو جمع کر کے عرب کی سرحد کی طرف آ جاؤ اور خود فوجی تیاری میں مصروف ہوئے۔ تمام قبائل عرب میں فرمان بھیجا کہ جہاں کہیں کوئی بہادر شہسوار، صاحب رائے شاعر یا خطیب ہو اس کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ اس حکم کی تعمیل میں قبائل عرب سے ایک انبوہ کثیرا کثیرا مدینہ کے گرد جمع ہوا۔



حضرت عمرؓ نے مقدمہ پر حضرت کو مہینہ پر حضرت زبیر کو اور میسرہ پر حضرت عبدالرحمن بن عوف کو مقرر فرمایا۔ چاہتے تھے کہ خود اس فوج کو لے جا کر ایرانیوں سے مقابلہ کریں لیکن مدبرین صحابہ نے ان کو روکا۔ لہذا حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو اس کا سپہ سالار بنایا۔

حضرت سعدؓ شجاعت میں بہت نامور تھے لیکن ان کی جنگی تدابیر پر زیادہ اعتماد نہ تھا اس لئے اس لشکر کی مہمات زیادہ تر اپنے اختیار میں رکھیں۔ حضرت سعدؓ فوج کو لے کر روانہ ہوئے اور مقام زردو میں پہنچ کر اس کا شمار کیا تو یہ تیس ہزار تھی۔ اسے باقاعدہ مرتب کیا اور مختلف دستے بنا کر ان کے الگ الگ کدوے مقرر کئے۔ شراف میں پہنچے تو وہاں حضرت عمر کا حکم ملا کہ قادیسیہ جا کر قیام کرو۔ اس مقام سے ایران کا پایہ تخت مدائن منہ منزل تھا۔ مثنیٰ حبش کو لڑائی میں سخت زخم آگیا تھا بستر مرگ پر سعد کے انتظار میں قادیسیہ میں پہنچ کر حضرت سعد کو معلوم ہوا کہ وہ انتقال کر گئے لیکن یہ وصیت کر گئے ہیں کہ ایرانیوں سے جنگ ان کی سرحد میں کی جائے۔ اور قیام عربی سرحد کے قریب رکھا جائے تاکہ فتح ہو تو آگے بڑھتے چلے جائیں ورنہ اپنے ملک میں محفوظ رہیں۔

حضرت عمرؓ کے یہاں سے متواتر خطوط سعدؓ کے نام آتے رہتے تھے یہ بھی فرمان پہنچا کہ قادیسیہ کی سرزمین اور غنیم کی فوجوں کا حال لکھو۔ کیونکہ



میں نے بعض ضروری ہدایتیں اسی سبب سے نہیں لکھیں ہیں کہ مجھ کو موقع اور دشمن کے تفصیلی حالات معلوم نہیں۔

حضرت سعد نے اپنی سرودگاہ اور موقع جنگ وغیرہ کے مفصل حالات تحریر کئے اور لکھا کہ آرمینیا کا رئیس رستم ایرانی فوج کا سپہ سالار ہے۔ اور اپنی سپاہ لئے ہوئے مقام ساباط میں خیمہ زن ہے۔

دربار خلافت سے فرمان پہنچا کہ جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہیے عقیل و فہیم مسلمانوں کو دربار ایران میں بھیجتا کہ وہ دعوت اسلام دیں۔ حضرت سعد نے جو وہ منتخب اشخاص کو بھیجا۔ یہ لوگ مدائن میں پہنچے اور شاہ یزدگرد کے دربار میں گئے۔ اس نے ان کو مرعوب کرنے کے لئے اپنے دربار کو نہایت ساز و سامان کے ساتھ مجایا تھا۔ یہ لوگ عربی قاعدے کے مطابق موزے پہنے اور ہاتھوں میں تازیانے لئے دربار میں داخل ہوئے۔ ان کی اس ہیئت سے ارکان سلطنت اور خودیاد شاہ پر خوف چھا گیا۔

ترجمان کے توسط سے گفتگو ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ ہمارے ملک میں کیوں گھس آئے۔ نعمان بن مقرن نے جو وفد سفارت کے سرگروہ تھے جواب میں عرب کی قدیمی جہالت اور ان کے اسلام لانے کا حال بیان کیا۔ پھر کہا کہ ہم کو حکم ہے کہ ہم اپنی اقوام قریبی سے دین کی تبلیغ شروع کریں۔ ہم دو چیزیں پیش کرتے ہیں یا تو اسلام لاؤ یا جس مذہب سے دو۔ اگر اسلام لاؤ گے تو ہم

کتاب اللہ تمہارے حوالہ کر دیں گے کہ اس کے مطابق چلو اور تم کو اور تمہارے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور اگر جزیہ دے کر ہماری حمایت میں آنا چاہتے ہو تو ہم یہ بھی منظور کر لیں گے اور تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی۔ ورنہ جنگ کریں گے۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم تم سے زیادہ کمزور اور بد بخت نہ تھی جب تم ہم سے بغاوت کرتے تھے تو ہم سرحد کے کسی رئیس کو لکھ بھیجتے تھے وہ تم کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ اب بھی ہم سے لڑائی سے باز آ جاؤ اور اس خیال کو دل سے نکال دو کہ تم ہمارے مقابلہ میں ٹھہر سکتے ہو۔ دو چار فتوحات جو تم کو حاصل ہو گئی ہیں اس سے دھوکے میں نہ آؤ۔ اگر تم نے مفلسی یا قحط سالی کی وجہ سے یہ قدرت گری شروع کی ہے تو ہم تم کو کچھ دینے کے لئے بھی راضی ہیں اور تمہارے اوپر ایک ایسا حکمران مقرر کر دیں گے جو مہربانی کا سلوک کرے گا۔

یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے لیکن مغیرہ بن زرارہ سے نہ رہا گیا۔ انھوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھی شرفاء عرب ہیں۔ علم اور وقار کی وجہ سے زیادہ گفتگو پسند نہیں کرتے۔ مگر آپ نے جو کچھ فرمایا اس کے جواب میں کچھ عرض کرتا ہوں۔

یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ایسے ہی تھے۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہم سے زیادہ بد بخت اور گمراہ کوئی قوم نہ تھی۔ ہماری مفلسی کا یہ حال تھا کہ ہم

سانپ، بچھو، حشرات الارض تک کو کھا جاتے تھے۔ زمین کی پشت ہمارا  
 نشین تھی اور اونٹ کا اون ہمارا لب اس۔ ہم ایک دوسرے کو لوتے اور  
 اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں  
 ایک نبی پیدا کیا جو حسب و نسب اور اخلاق و عادات میں ہم سے ممتاز تھا۔  
 اول اول ہم نے اس کو بھٹلایا اور مخالفت کی۔ لیکن رفتہ رفتہ ہم اس کی بات  
 ماننے لگے۔ وہ جو کچھ کرتا تھا اللہ کے حکم سے کرتا تھا۔ اور جو کچھ کہتا تھا  
 اللہ کے حکم سے کہتا تھا۔ اس نے ہم کو حکم دیا کہ اس دین کو دنیا کی قوموں کے  
 سامنے پیش کریں۔ جو اس کو مان لے اس کا وہی حق ہے جو ہمارا حق ہے۔  
 اور جو نہ مانے اور جزیہ دینے پر راضی ہو جائے تو ہمارے اوپر اس کی حفا  
 فرض ہے۔ مگر جو اس سے کبھی انکار کرے اس کے لئے تلوار ہے۔ اب  
 اگر آپ چاہیں تو جزیہ دے کر اسلام کی حمایت میں آجائیں اور نہیں تو  
 تیغ آزمائی کریں اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں کہ آپ کی  
 جان اور سلطنت محفوظ رہے۔

یہ دگر دے برا فروخت ہو کر کہا کہ کیا تم نے ان الفاظ سے مجھ کو مخاطب  
 کیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ جس نے ہم کو مخاطب کیا تھا وہی ہمارا  
 بھی مخاطب ہے، یوگر د بولا کہ اگر سفیروں کا قتل روا ہوتا تو میں تم کو نہ چھوڑتا جاؤ  
 میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں ہے۔ اپنے سردار سے کہہ دینا کہ تم آ رہا

ہے وہ تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو قادیسہ کی خندق میں دفن کر ڈالے گا۔

رستم کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار فوج تھی۔ وہ آگے بڑھ کر نجف میں خیمہ زن ہوا۔ اسلامی فوج اس کے بالمقابل تھی ایک عرصہ تک وہ لڑائی کو ٹالتا اور کوشش کرتا تاؤ کہ کوئی صورت صلح کی پیدا ہو جائے لیکن نہ ہو سکی۔

حضرت سعد نے قینم کی فوجوں کے حالات دریافت کرنے کیلئے بہت سے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ انہیں میں سے ایک شخص طلحہ رات کے وقت ایرانی لباس میں رستم کی فوج میں گئے۔ ایک نہایت بیش قیمت گھوڑا بندھا ہوا تھا اس کو کھول کر خود اس پر سوار ہو گئے اور اپنے گھوڑے کو اس کے بجائے باندھ دیا۔ وہ ایک سردار کا گھوڑا تھا۔ جب اس کو پتہ لگا تو دو سواروں کیلئے کران کے پیچھے دوڑا۔ نزدیک پہنچ کر نیزہ مارا۔ انہوں نے وار خالی دیا اور پھرتی کے ساتھ پلٹ کر اس کے سینے پر الیا بڑھایا کہ وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں میں سے بھی ایک کو مار ڈالا اور دوسرے کو پکڑ لے لے وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا نام مسلم رکھا گیا۔ ان کے ذریعے سے ایرانی فوج کے مخفی حالات مسلمانوں کو معلوم ہو گئے۔ مسلم آخر تک تمام معرکوں میں شریک رہے اور نہایت خلوص کے ساتھ جان بازی کے جوہر دکھائے۔

محترم سلسلہ میں دونوں فوجیں میدان جنگ میں صف آرا ہوئیں۔ ایرانیوں کے پس پشت نہر حلیق اور مسلمانوں کے پیچھے خندق تھی۔ درمیان میں



میدان جنگ تھا۔ حضرت سعد بن عرق النساء کی بیماری کی وجہ سے حرکت سے معذور تھے۔ وہ میدان جنگ کے کنارے ایک قدیمی قصر کے اوپر بیٹھ کر فوجوں کو ڈارہے تھے۔ خالد بن عرفطہ کو محل کے نیچے کھڑا کر دیا تھا اور خود بیچوں پر حکم لکھ لکھ کر گولی بنا بنا کر اوپر سے پھینکتے جاتے تھے۔ خالد انہی ہدایتوں کے مطابق فوجوں کو احکام پہنچاتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت سعد نے تین بیجیریں کہیں اور حملہ شروع ہوا۔ مسلمانوں کو جو سب سے بڑی دشواری پیش آتی وہ ہاتھیوں کی تھی۔ ان کو دیکھ کر عربی گھوڑے بھاگنے لگے اور سواروں کے ساتھ پیدل فوج کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت سعد نے قبیلہ بجیلہ کے سردار طلحہ کو حکم دیا کہ ان ہاتھیوں سے مسلمانوں کو بچاؤ۔ طلحہ نے اپنے قبیلہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یارو! سعد نے کچھ سمجھ کر تم سے مدد مانگی ہے ان لوگوں نے جوش میں آکر ہاتھیوں پر تیر بڑے مائے اور ان کے سواروں کو گرا دیا۔ بنی ہمد کا قبیلہ بڑی مشکلوں سے ہاتھیوں کے ریلے سے بچایا گیا۔ تاہم ان میں سے پانچ سو آدمی ہلاک ہو گئے۔

میمینہ اور میسرہ نے بھی خفیف حملے کئے اور کسی قدر رات تک یہ لڑائی جلدی رہی۔ اس روز بظاہر ایرانی غالب نظر آتے تھے۔

دوسرے دن مسلمان شہیدوں اور زخمیوں کو میدان سے اٹھالائے۔ شہیدوں کو دفن کیا اور زخمیوں کو عورتوں کے حوالے کیا کہ مریم بی بی کریں اس



کے بعد لشکر کی صف آرائی کی۔ اسی آٹھ ماہ میں شام کی طرف سے حضرت عمر کے فرمان کے مطابق وہ فوج جس کو حضرت خالد عراق سے لے گئے تھے اداو کے لئے آگئی۔ اس کے امیر ہاشم بن عتبہ بن لہی وقاص حضرت سعد کے بھتیجے تھے اس کے آجانے سے مسلمانوں کو تقویت پہنچ گئی۔

اس روز عربوں نے اونٹوں کو بھول اور برقعہ پہنا کر اس طرح کا ہیلب بنایا تھا کہ جس طرف کا وہ رخ کرتے تھے ایرانیوں کے گھوڑے بھاگ جلتے تھے۔ ان سے وہی اسفت ایرانیوں پر نازل ہوتی جو پہلے دن ہاتھیوں سے مسلمانوں پر نازل ہوئی تھی۔ آدھی رات تک جنگ جاری رہی اور مسلمانوں کا پتہ بھاری معلوم ہوتا تھا۔ ایرانی سرداروں میں سے بہن اور بزرگمہر قعقاع کے ہاتھ سے اور سیستان کا شہزادہ شہر برازا محمد بن قطبہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔

حضرت ابو بکر جو ایک بہادر صحابی تھے ان کو شراب پینے کے الزام میں حضرت سعد نے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا وہ اس لڑائی کو دیکھ کر خوشی سے بیتاب ہو گئے اور سعد کی بیوی سلمہ سے کہا تم مجھے چھوڑ دو میں جا کر جہاد کروں گا۔ اگر زندہ بچا تو خود آکر بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ حضرت سعد کے گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ لے لے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور لڑکار اس طرح دشمنوں پر گرے کہ ان کی صفیں الٹ دیں۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کون شخص ہے۔ شام ہوتی تو ابو بکر نے آکر بیڑیاں پہن لیں حضرت سعد

کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو انکھوں نے ان کو روکا اور کہا کہ جو شخص اس طرح اسلام کے اُپر اپنی جان نثار کر دے میں اس کو کبھی سزا نہیں دوں گا۔ ابوحنیفہ نے کہا کہ میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔

تیسرے دن جب لڑائی شروع ہوئی تو پھر وہی ہاتھیوں کی مصیبت سامنے آئی۔ دو ہاتھی سب سے بڑے تھے ان میں سے ایک کی دونوں آنکھوں میں دو مسلمانوں نے ایک ساتھ نیزہ مارا اور تلوار سے اس کی سوند کو کاٹ دیا اس نے اس زود سے سر بلایا کہ فیلبان نیچے گر پڑا پھر وہ ہاتھی خود گر پڑا اور دوسرے ہاتھی کے ساتھ بھی انھوں نے یہی کیا وہ زخم کھا کر منہ موڑ کر نہر کی طرف بھاگا۔ تمام ہاتھی اس کے پیچھے ہو گئے۔ اور ایرانیوں کی صفیں چیرتے ہوئے نکل گئے۔ اب مسلمانوں نے بے خوف ہو کر شدت کے ساتھ ایرانیوں پر دباؤ ڈالا۔ رات بھر برابر جنگ جاری رہی اور سوائے تلواروں اور گھوڑوں کی آوازوں کے اور کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی۔ صبح کو قلعے کے پکارا کہ فتح کے لئے ایک گھڑی کا صیرا اور دو کارہے مسلمان ثابت قدمی سے لڑتے رہے ظہر سے پہلے پہلے ایرانی فوج کے دونوں بازوؤں نے شکست کھائی پھر مسلمان میلہ کی طرح قلب کی طرف بڑھے اور دیش کا دیانی چھین لیا۔ رستم اپنے تخت سے اتر کر خود مقابلہ کے لئے کھڑا ہوا لیکن زخم کھا کر بھاگا اور نہر میں کود کر جا ہا کہ

اس پارنکل جائے۔ ہلال بن عرفہ نے پانی میں سے اس کو کھینچ کر قتل کر دیا۔  
 اس جنگ میں ایرانی ہر چند نہایت پامردی سے لڑے لیکن مسلمانوں  
 کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ گئی۔ تیس ہزار کشتے میدان جنگ میں چھوڑ کر وہ  
 بھاگے۔ مسلمان شہداء کی کل تعداد آٹھ ہزار تھی۔ حضرت سعد نے دبار غلامت  
 میں فتح نامہ لکھا۔

قادسیہ کی لڑائی کے متعلق حضرت عمر نہایت فکر مند رہتے تھے۔ ہر روز  
 صبح کو قاصد کے انتظار میں مدینہ سے باہر نکلتے اور دوپہر کو واپس جاتے  
 جس روز ناقہ سوار فتح نامہ لے کر پہنچا تو مدینہ کے باہر راستہ ہی میں حضرت عمر  
 اس سے ملے اور حالات پوچھنے لگے وہ سواری کو تیزی سے لئے آ رہا تھا  
 اور ان سے حالات کہتا جاتا تھا۔ وہ پیچھے پیچھے دڑتے چلے آتے تھے۔  
 شہر میں داخل ہونے پر جب ان کو لوگوں نے امیر المؤمنین کہہ کر سلام کیا اس  
 وقت قاصد کو معلوم ہوا۔ اس نے کہا اللہ رحم کرے۔ آپ نے پہلے سے  
 کیوں مجھے نہ بتلایا کہ میں رُک جاتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کچھ حرج نہیں پھر  
 اس سے خط لے کر جمع عام میں لوگوں کو سنایا۔

اس کے بعد سعد نے دوسرا خط لکھا کہ میرے پاس بہت سے ایسے  
 لوگ آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایرانی امرار نے ہمیں زبردستی بکڑ کر فوج میں  
 بھرتی کر لیا ہم اپنی خوشی سے نہیں لڑتے تھے اور اب وہ امان کے طالب

ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ انھوں نے کہا کہ جو لوگ امان جانتے ہیں امان دے دی جائے اور جو گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ چاہیں تو ذمی بن کر اپنے گھروں میں آجائیں۔ حضرت عمر کو یہ خوف بھی تھا کہ مسلمانوں کے پس پشت ابلہ کی طرف سے عجمی کہیں آکر نہ ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس لئے مدینہ سے فوج کا ایک دستہ عقبہ بن غزوہ ان کے ساتھ اس طرف روانہ کیا تاکہ وہ ایرانیوں کو اسلامی فوج کی طرف آنے سے روکے۔ یہ لوگ اس مقام پر ٹھہرے جہاں اب بصرہ ہے اور ابلہ کو سلمہ میں فتح کر لیا۔ اس کے بعد بصرہ کی داغ بیل ڈالی گئی اور اس کی آبادی شروع ہوئی۔ قادسیہ میں حضرت سعید بن جبیر دو مہینے آرام کر چکے تو مقام برس کی طرف جہاں ہرنز شکست خوردہ فوجیں لئے ہوئے پڑا تھا بڑھے مسلمانوں کو ایرانیوں سے مال غنیمت میں اس قدر گھوڑے ملے تھے کہ بیشتر اسلامی فوج سوار تھی۔ ہرنز زیادہ مقابلہ نہیں کر سکا اور بابل کی طرف بھاگ گیا۔ وہیں تمام ایرانی لشکر جمع تھا۔ جس کا سردار فیروز تھا۔ بعد ازاں آگے بڑھ کر ایک ہی حملہ میں اس کو شکست دیدی اور اس کے پیچھے زہرہ بن سویہ کی سرکردگی میں فوج روانہ کی۔ مقام کوٹی میں مقابلہ ہوا ایرانی فوج کا سپہ سالار شہریار خود میدان میں آیا۔ زہرہ نے اس کے مقابلہ میں ایک غلام نابل کو بھیجا۔ نابل نے اس کو قتل کر دیا۔



بابل کے مرزبانوں نے حضرت سعد سے آکر صلح کر لی۔ پھر وہ کوئی ہوتے ہوئے بہرہ شیر کی طرف روانہ ہوئے۔ دو مہینہ تک اس کا محاصرہ کیا اس دوران میں اس اطراف کے رعیتوں سے بھی عہد نامے کئے۔

ایرانی فوج قلعہ سے کبھی کبھی نکل کر لڑتی تھی۔ ایک دن جب مستعد ہو کر نکلے۔ زہرہ کی زرہ کی کڑیاں جا بجا سے نکلی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے کہا دوسری زرہ پہن لیجئے۔ انھوں نے جواب دیا میں ایسا خوش نصیب کہاں ہوں کہ دشمن کے تیر سب کو چھوڑ کر میری طرف آئیں۔ اس روز پہلا تیر ان کو لگا۔ لوگوں نے نکالنا چاہا تو بولے کہ نہ نکالو جب تک یہ تیرم میں ہے اسی وقت تک میں بھی زندہ ہوں۔ اسی حالت میں لڑتے ہوئے آگے بڑھے اور ایرانی فوج کے ایک سردار شہر راز کو قتل کیا ایرانی قلعہ میں بھاگ گئے اور بالآخر مصالحت کی۔

**مدائن** | بہرہ شیر اور مدائن کے بیچ میں دریا نے وجہ حائل تھا۔ حضرت سعد کو معلوم ہوا کہ نیر و گرد مدائن کے تمام ذخیرے منتقل کر رہا ہے اس لئے عجلت کے ساتھ بڑھے۔ ایرانیوں نے پل توڑ ڈالا تھا۔ حضرت سعد نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ ان کو دیکھ کر کل مسلمانوں نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دئے۔ دریا موجیں مار رہا تھا لیکن امیرانی فوج رکاب سے رکاب ملائے آپس میں باتیں کرتی ہوئی پار نکل آئی۔ اس کی ترتیب میں بھی فرق نہیں آیا ایرانی کنارے پر کھڑے ہوئے یہ تماشہ دیکھ رہے تھے انھوں نے کہا کہ یہ انسانوں کا



کام نہیں چھوڑتا اسٹھے کہ "دیو آمدند"۔ ملائین کی فوج میں مقابلہ کی طاقت نہیں تھی۔ یزدگرد اپنے اہل و عیال کو لے کر حلوان کی طرف بھاگا جو رہ گئے تھے انھوں نے جزیہ دینا منظور کیا۔ ایوان کسریٰ میں شکر یہ کی نماز پڑھی گئی پھر جمعہ کی نماز بھی اسی میں ادا کی گئی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق میں مسلمانوں نے پڑھا۔

حضرت سعد نے ان تمام مورثیوں کو جو شاہی محل میں تھیں بدستور رہنے دیا۔ اور ان کے توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد ساز و سامان اور ذخیرے فراہم کئے گئے۔ اس میں سے پانچواں حصہ دربار خلافت میں بھیجا گیا جس میں ایک فرش ساٹھ گز لمبا اور اسی قدر چوڑا تھا۔ اس میں بہار یہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ قسم قسم کے درخت اور گل بوٹے زر و جواہرات کے تھے۔ بعض صحابہ کی رائے ہوئی کہ یہ محفوظ رکھا جائے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی مخالفت کی۔ آخر اس کے پُرزے پُرزے کیے تقسیم کر دئے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مقدس زمانہ میں زخارف دنیوی کس قدر لغو اور فضول خیال کئے جاتے تھے۔

ایرانویں کی ہزیمت خوردہ فوج جب جلولار میں پہنچی تو امرار نے  
جلولار آپس میں مشورہ کیا کہ اگر آج ہم سب لوگ منتشر ہو گئے تو  
 پھر اجتماع نہ ہو سکے گا اور یہی جگہ ہے جہاں سے مختلف صوبوں کے لوگ

متفرق ہو سکتے ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہاں جمع کرہ عربوں سے ایک آخری لڑائی لڑیں۔ اگر کامیاب ہوتے تو ملک کو بچالیں گے، نہیں تو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ یہ سوچ کر مورچہ بندی کی اور اردگرد خندق کھود کر اس کے چاروں طرف کانٹے اور گود بچھا دئے صرف اپنی گزرگاہیں محفوظ رکھیں۔ حضرت سعد نے دربار خلافت کے حکم کے مطابق ہاشم بن عقبہ کو ان کے مقابلے کے لئے روانہ کیا۔ وہ صفر ۱۶ھ مطابق مارچ ۶۳۷ء میں بارہ ہزار فوج لے کر حلوان پہنچ گئے اور دشمنوں کا محاصرہ کیا ایرانی مورچہ سے کبھی کبھی نکل کر لڑتے تھے اور پھر امی میں پناہ گزین ہو جاتے تھے ان کے پاس سامان رسد جمع تھا۔ علاوہ بریں یزدگرد حلوان سے سلسلہ وار ملک اور خوراک بھیجتا تھا۔ مسلمانوں نے محاصرہ سے تنگ آکر ایک دن دل توڑ کر حملہ کیا اور ان کی خندقوں میں گھس گئے۔ حملہ آوروں میں سب سے آگے قحطع تھے ایرانی بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا اور غنیم کا خانقین تک تعاقب کیا۔ یزدگرد نے جب اس شکست کی خبر سنی تو حلوان چھوڑ کر تے کی طرف چلا گیا۔ قحطع نے پہنچ کر حلوان پر قبضہ کر لیا اور وہاں فوج کا ایک دستہ متعین کر دیا کہ سرحد کی حفاظت کرے کیونکہ یہ مقام کوہستانی اور میدانی علاقوں میں حد فاصل تھا۔

حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ مسلمان اپنی فتوحات کو سواد عراق تک محدود

رکھیں۔ ایک خط میں انھوں نے لکھا بھی تھا کہ کاش ہمارے اور غنیم کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل ہوتی کہ نہ ہم ان کی طرف بڑھتے نہ وہ ہماری طرف۔ مجھے مسلمانوں کی سلامتی مالِ غنیمت سے زیادہ عزیز ہے۔

حضرت سعد نے اپنے کاتب زیاد کے ہمراہ خمس غنیمت مدینہ کو روانہ کیا۔ زیاد نے حضرت عمر سے مفصل حالات بیان کئے۔ وہ ان کی فصاحت سے خوش ہوئے اور پوچھا کہ مجمع عام میں اسی طرح بیان کر سکتے ہو۔ زیاد نے کہا کہ دنیا میں کسی شخص کا رعب میرے اوپر اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا۔ جب میں نے آپ کے سامنے بیان کر لیا تو اوروں کے سامنے کیوں نہ بیان کر سکوں گا چنانچہ انھوں نے مجمع عام میں تمام حالات جنگ سامنے اس وقت شام ہو گئی تھی اس لئے مالِ غنیمت رکھ دیا گیا۔ صبح کو تقسیم ہوا درہم اور دینار کے علاوہ جواہرات کے ڈھیر تھے۔ حضرت عمران کو دیکھ کر روئے۔ لوگوں نے سب پوچھا فرمایا جس قوم میں دولت اتنی ہے ساتھ ہی ساتھ رشک و حسد بھی آتے ہیں۔ سعد نے مدائن سے عبداللہ بن معتم کے ہمراہ ایک فوج تکریت کی طرف روانہ کی۔ وہاں ایرانی جمع تھے اور اردگرد خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے چالیس روز تک محاصرہ رکھا اس درمیان میں چوبیس حملے کئے اور ہر ایک میں کامیاب رہے۔

ایرانیوں کے ساتھ نصاریٰ نے عرب بھی شریک تھے انھوں نے ابن معتم

مے صلح کی درخواست کی جو اس شرط پر منظور ہوئی کہ جب تم ہماری تکبیر سننا تو خود اللہ اکبر کے نعرے لگا دینا۔ دوسرے دن جب مسلمانوں نے خندق کی طرف ہجوم کیا اور تکبیر بکاری تو ان نصاریٰ نے بھی ادھر سے تکبیر کے نعرے لگائے۔ ایرانیوں کو یہ شبہ ہوا کہ نیچے سے بھی مسلمان آگئے۔ اس لئے وہ بھاگتے ہوئے ادھر آئے جدھر ابن معتم کی فوج تھی۔ مسلمان ٹوٹ پڑے اور بیشتر ایرانی قتل ہوئے۔

مدائن سے ایک دو سہ ماہیہ حضرت عمر کے بھائی ضرار بن خطاب کی ماتحتی میں ماسباران کی طرف گیا اور اس شہر کو فتح کیا۔ عمر بن مالک بھی کھوڑی سی فوج لئے ہوئے ہیئت اور قرقیسیا کی طرف گئے اور ان مقاموں پر قبضہ کیا۔ اطراف و دیار کے باشندوں نے آکر تہذیب پر مصالحت کی۔ تمام خطہ عراق میں امن قائم ہو گیا۔ انتظام کے لئے عمال مقرر کر دئے گئے اور رعایا اطمینان کے ساتھ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئی۔ سرحدوں کی حفاظت کے لئے بھی جا بجا فوجیں متعین کر دی گئیں۔

عراق سے جو لوگ مدینہ آتے تھے۔ حضرت عمران کے ننگ آبادی کو قہ | کو متغیر اور ان کے جسم کو کمزور پاتے تھے۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ سواحل دجلہ کی آب و ہوا اہل عرب کو اس نہیں آئی اس لئے سعد کو حکم دیا کہ مسلمان اور عذقیہ کو بھیجو کہ وہ دریائے فرات کے مغرب میں کوئی ایسی جگہ تلاش

کریں جو عربوں کے لئے مناسب ہو اور میرے اور ان کے درمیان پانی اور بٹل  
 حائل نہ ہو۔ سعد نے ان دونوں آدمیوں کو روانہ کیا۔ وہ لوگ اس مقام پر پہنچے  
 جہاں کوہ آباد کیا گیا۔ یہ ریتی زمین تھی جس میں سنگ ریزے ملتے ہوئے  
 تھے۔ ان لوگوں نے اس کو پتہ کیا۔ وہاں نماز پڑھی۔ دعا کی اور سعد کو مطلع کیا  
 انھوں نے خلیفہ کو لکھا۔ حکم آیا کہ فوجیں لے کر اسی مقام پر چلے جاؤ۔ وہ  
 سب کو ساتھ لے کر محرم ۶۲۸ھ مطابق جنوری ۶۲۸ء کو روانہ ہوئے اور  
 وہاں پہنچ کر قیام کیا۔

حضرت عمر کی رائے تھی کہ فوج نیموں میں رہے۔ پھر انھوں نے چھپر  
 بنانے کی اجازت دے دی۔ مگر ایک بار آتشزدگی کا حادثہ ہوا جس سے  
 سخت نقصان ہو گیا اس لئے ابوالہیاج کو بھیجا کہ وہ اینٹ اور گارے سے  
 شہر کے مکانات تعمیر کرائیں۔ پہلے بیچ میں ایک جامع مسجد بنائی گئی جس میں  
 چالیس ہزار آدمی نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس کے چاروں طرف بقدر ایک ایک  
 تیر کے پٹے کے لئے زمین چھوڑ کر شہر کی تعمیر شروع کی گئی۔ بڑی بڑی کھنڈیاں ہاتھ  
 درمیان تیس ہاتھ اس سے چھوٹی بیس ہاتھ اور گلیاں سات ہاتھ عرض کی کھی  
 گئیں مسجد سے ملحق دو سو ہاتھ لمبا ایک سائبان بنایا گیا جس میں سنگ سرخ کے  
 ستون ایوان کسری سے لاکر لگائے گئے۔ حضرت عمر نے باوجود اس کے کہ  
 ان ستونوں کا کوئی وارث نہ تھا ان کی قیمت ایرانی رعایا کے جزیہ میں مجرا کر دی۔



اسی کے ساتھ میت المال تھا جس کے سامنے حضرت سعد کے لئے ایک مکان بنایا گیا۔

بصرہ میں اگرچہ مسلمان ۱۲ھ میں آگئے تھے لیکن اس کی آبادی بھی کوفہ کے ساتھ اور اسی روش پر ہوئی۔ اس وقت سے یہ دونوں مقامات فوجوں کے مرکز مقرر کئے گئے جہاں سے مشرقی مہمات کے لئے لشکر بھیجے جاتے تھے۔

خلیفہ کے حکم سے کوفہ سے فوج کے تین دستے روانہ کئے گئے۔

### جزیرہ

پہلا سہیل بن عدی کی ماتحتی میں رقبہ کی طرف دوسرا عبداللہ بن عتبہ کے ساتھ نصیب بن کعب بن عقیبہ بن ولید کے ہمراہ جزیرہ کے عربی باشندوں کو واپس کے لئے ان تینوں شکروں کے سپہ سالار عام حضرت عیاض بن غنم تھے ان فوجوں کے بھیجنے سے حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ جزیرہ سے جو عیسائے عرب حمص میں جا کر رومی فوجوں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں وہ نہ جا سکیں۔ چنانچہ جب ان کو معلوم ہوا کہ خود ان کے دیار پر لشکر کشی ہوئی ہے تو واپس آگئے اور شام کی اسلامی فوجوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔

عیاض جب مقام رہا میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے جزیرہ پر صلح لی۔ حوران والوں نے بھی یہی کیا۔ پھر نصیبین فتح ہوا۔

جزیرہ میں جو عرب بستے تھے ان میں سے بیشتر اپنی زمینیں چھوڑ کر وہ علاقوں میں چلے گئے تھے۔ ان کی تحریروں سے معلوم ہوا کہ واپس آنے کے

لئے تیاں میں بشرطیکہ ان سے جزیرہ نہ لیا جائے کیونکہ اس کو وہ ذلت سمجھتے تھے۔  
 البتہ صدقہ کے نام سے دوسرے لوگوں سے دگنا دے دیں گے۔ چونکہ مسلمانوں  
 کی رائے یہ تھی کہ عربوں کو نفرت نہ دلانی جائے۔ اس لئے خلیفہ اس بات  
 پر راضی ہو گئے کہ ان سے صدقہ ہی کے نام سے لیا جائے اور جزیرہ کا ذکر  
 نہ کیا جائے۔

خوزستان کا سب سے بڑا شہر اہواز حدود بصرہ پر واقع  
 تھا وہاں ہرمزان اپنی فوجیں لئے ہوئے پڑا تھا جو کبھی کبھی  
 اسلامی مقبوضہ میں بڑھ کر فارت گری کرتی تھیں۔ امیر بصرہ عتبہ بن غزو ان نے  
 ان پر فوج کشی کرنے کے لئے حضرت سعد سے امداد طلب کی۔ انھوں نے  
 کمک بھیجی۔ ایرانی فوجوں نے مقابلہ میں شکست کھائی۔ ہرمزان نے اہواز اور  
 مہر جان کا علاقہ مسلمانوں کے حوالہ کر کے صلح کر لی۔

کچھ دنوں کے بعد اس نے معاہدہ کو توڑ کر دوں کو ساتھ لے کر چڑھائی  
 کی۔ عتبہ نے حضرت عمر کو اطلاع دی۔ انھوں نے متواتر فوجیں بھیجیں جو اہواز  
 کے پل کے متصل ہرمزان کے مقابلہ میں صف آرا ہوئیں۔ وہ ہزیمت اٹھا  
 کر بھاگا۔

حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ ہرمزان نے عہد شکنی کہیں اس خیال سے نہ  
 کی ہو کہ مسلمانوں نے اہل ذمہ پر سختی کی ہو اس لئے عتبہ کو فرمان بھیجا کہ تم

معتبر لوگوں کی ایک جماعت جس میں دس آدمی کو ذہ کے بھی ہوں میرے پاس بھیجوا تاکہ میں ان سے اصلی کیفیت دریافت کروں۔ عقبہ نے اس کی تعمیل کی اور وفد روانہ کیا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ مسلمان اہل ذمہ پر ظلم تو نہیں کرتے۔ انھوں نے جواب دیا کہ مطلق نہیں۔ مسلمانوں کا برتاؤ قابل تعریف ہے۔ انھوں نے وفد کو واپس کیا۔ اور عقبہ کو لکھا کہ لوگوں پر تاکید رکھو کہ وہ ظلم اور بیوفائی سے بچیں۔ ہم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ وفاتے عہد سے دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ نعمتیں ہم سے چھین لے۔ ہم امر کے حکم کے مطابق چلیں گے تو ہماری مدد کرے گا۔

حضرت عمار بن حنفیہ بن بحرین کے امیر حضرت سعد بن وقاص کے فارس پر حملہ کے حریف تھے۔ خلیفہ اول کے وقت میں فتوحات

رقت میں انھوں نے بڑی عزت اور شہرت حاصل کی تھی۔ ادھر مہم عراق اور خاص کر قادیسیہ کی فتح سے جب حضرت سعد کی شہرت اور عظمت زیادہ ہو گئی تو ان کو رشک پیدا ہوا۔ انھوں نے چاہا کہ میں بھی اہل عجم کے مقابلہ میں کوئی ایسا کار نمایاں انجام دوں کہ میرا رقبہ سعد سے کم نہ رہے۔ یہ سوچ کر دربار خلافت کی منظوری کے بغیر ہی بحرین سے کشتیوں پر فارس کی طرف ایک فوج بھیجی۔ جب کنارے پر اتر کر اصطنخر کی طرف بڑھی تو اہل فارس نے اسے گھیر لیا۔ یہ لوگ لڑتے ہوئے آگے نکل آئے۔ چونکہ فارس

شکران کے اور کشتیوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس نے مجبوراً خشکی کی  
 راہ سے بصرہ کی طرف چلے۔ ادھر ایک ایرانی مرزبان شہرک راستہ روکے  
 نئے پڑا تھا۔ اس وجہ سے رُک گئے۔

حضرت عمر کو جس وقت یہ اطلاع ملی تو ناراض ہو کر علاء بن حفصہ کو  
 منزل کر دیا اور جو امران کے اوپر سب سے زیادہ شاق تھا اسی کا حکم دیا  
 ہی یہ کہ کوفہ میں جا کر سعد بن ابی وقاص کی ماتحتی میں رہیں اور عتبہ بن غزوٰن  
 کی بصرہ کو فرمان بھیجا کہ لشکر روانہ کر کے ان مسلمانوں کو جن کو علاء بن حفصہ  
 نے تری کی راہ سے بھیجا اور خشکی میں محصور ہو گئے ہیں دشمنوں کے ترغیب  
 سے نکالیں۔ عتبہ نے بارہ ہزار سپاہی ابو سیرہ کی ماتحتی میں بھیجے وہ ساحل کے  
 ستے سے گئے۔ شہرک کو شکست دی۔ محصورین کو ساتھ لے کر بصرہ واپس  
 نئے اور وہاں سے ان کو بھرین پہنچا دیا۔

**امہ مزوتستر** | بادشاہ زندگوردے سے جا کر مزو میں مقیم ہوا اور وہاں  
 عجمیوں کو عربوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ چنانچہ  
 اس اور غوزستان کے رؤسائے باہم مراسلت کر کے ایک جھٹا بانڈھا  
 وراہل عرب کے مقابلہ کی تیاریاں کرنے لگے۔

ہزار سرد نے خلیفہ کو ان باتوں کی اطلاع دی۔ انھوں نے سعد کے نام  
 فرمان بھیجا کہ ایک لشکر گراں نعمان بن مقرن کی سرکردگی میں غوزستان کی

طرف روانہ کرو۔ نیز بصرہ کے والی کو بھی حکم لکھا کہ سہیل بن عدی کی ماتحتی میں تم بھی ایک فوج اس طرف بھیجو۔ کوفہ اور بصرہ کی ان دونوں فوجوں کے سپہ سالار عام ابو سیرہ مقرر کئے گئے۔ نعمان ہرمز کی طرف بڑھے۔ ہرمزان نے شکست کھائی اور وہاں سے بھاگ کر تستر میں چلا گیا۔ نعمان نے پہنچ کر قسٹر کا محاصرہ کیا۔ بصرہ کی فوج بھی یہاں آگئی۔ کئی مہینے تک محاصرہ رہا۔ مسلمانوں نے دوران محاصرہ میں انہی حملے کئے جن میں کبھی ایرانی اور کبھی مسلمان غالب رہتے تھے۔ بالآخر مسلمانوں نے ایک رات کو اس نہر میں سے جو شہر میں سے گزرتی تھی داخل ہو کر فصیل کے دروازے کھول دیئے اور شہر کے اندر گھس گئے۔ ہرمزان نے اوپر کے برج سے پکارا کہ میں اس شرط پر اتنے کے لئے تیار ہوں کہ تم مجھے اپنے خلیفہ کے پاس بھیجو وہ میری بابت جو حکم دینگے میں اسی پر راضی ہوں ابو سیرہ نے اس کو ایک وفد کے ہمراہ مدینہ بھیج دیا۔

حضرت عمر اس وقت اکیلے مسجد میں سوئے ہوئے تھے۔ ہرمزان یہ سمجھتا تھا کہ ان کا دربار بڑی شان و شوکت کا ہوگا۔ پوچھا کہ بادشاہ کہاں ہے۔ لوگ اس کو مسجد میں لے گئے۔ اس نے دیکھا کہ نہ دربان ہے نہ پاسبان اور وہ پیٹ لگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں۔ پوچھا کہ کیا یہ نبی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نبی تو نہیں ہیں لیکن نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ حضرت عمر نے ترجمان کے توسط سے گفتگو شروع کی۔ فرمایا کہ تم نے اپنی بے وفائیوں اور بد عہدوں کا مزہ چکھا ہرمز



نے کہا کہ اسے عمر! جاہلیت میں جب اعدائے تمہارے ساتھ تھا نہ ہمارے ساتھ ہم ہمیشہ تم پر غالب رہے اب اس نے تمہارا ساتھ دیدیا اس لئے تم غالب آگئے۔ حضرت عمر نے کہا تم یہ بتاؤ کہ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے کہ بارہ ار معاہدے کر کے ان کو توڑتے رہے۔

جواب دینے سے قبل اس نے پینے کے لئے پانی مانگا۔ جب پیالہ یا گیا تو اس کا ہاتھ کا پینے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پانی پینے کی حالت میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا۔

جب تک اس پانی کو تم نہیں پی لو گے قتل نہیں کئے جاؤ گے۔ یہ سن کر اس نے پانی کو پھینک دیا اور کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو امان لینا چاہتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ کو امان دے چکے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو لیکن اس بن مانک اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین! جو الفاظ آپ نے فرمائے ان سے اس کو امان مل گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ افسوس ہے ہم کو پتہ بھی نہ لگا اور اس نے امان لے لی۔

اس کے بعد ہر مزاران مسلمان ہو گیا اور کہا میں نے یہ تدبیر اس لئے کی کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ قتل کے خوف سے اسلام لایا۔ حضرت عمر اس کی بد عہدگی کی وجہ سے اس سے سخت ناراض تھے اور قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے

اسلام لانے سے خوش ہو گئے۔ مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور دو ہزار درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایران کے معاملات میں اس سے مشورے بھی لیا کرتے تھے۔ ہرمزان کے ساتھ جو وفد آیا تھا اس سے بھی حضرت عمر نے دریافت کیا کہ عجمی بار بار جو عہد شکنی کر ڈالتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا مسلمان اہل ذمہ کے ساتھ کچھ بُرا برتاؤ کرتے ہیں۔ اہل وفد نے کہا کہ مسلمانوں نے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور بالعموم اہل ذمہ کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر کیا بات ہے جو اہل عجم اپنے عہد قائم نہیں رہتے۔ انصف بن قیس نے جواب دیا کہ آپ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جو علاقہ ہمارے ہاتھ آچکا ہے اسی پر ہم قناعت کریں۔ اور آگے نہ بڑھیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ ابھی تک اپنے ملک میں موجود ہے وہ اہل عجم کو ہمارے خلاف اکساتا رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ بغاوت اور سرکشی کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ ایک ملک میں دو حکومتیں نہیں رہ سکتیں۔ اگر ہم کو عراق کی حدود سے آگے بڑھنے کی اجازت ملے اور ہم اس کو ملک سے باہر نکال کر اپنا تسلط جمالیں تو پھر ایرانی خاموش ہو جائیں گے اور ان کو کوئی بھڑکانے والا نہیں رہے گا۔

حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کھٹیک کہا اور اب اصلی وجہ میری سمجھ میں آگئی۔ اس کے بعد اطلاع موصول ہوئی کہ ایرانی فوجیں نہاوند میں جمع ہو رہی ہیں۔

اس سے احنف کے قول کی اور بھی تصدیق ہوئی۔

نہاوند | نیرودگر اور بالعموم ایرانیوں کو اس بات کا یقین تھا کہ عربوں کا سیلاب زیادہ سے زیادہ عراق کے حدود پر اکر رک جائے گا۔

ایرانی سلطنت پر وہ پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر مرد سے اس نے عجیبی ریشیوں اور مرزبانوں کے پاس قاصد اور خطوط بھیجے اور جابجا سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ جنگ آور فراہم کئے۔ نہاوند میں ان کا اجتماع ہوا۔ نعمان بن مقرن تیس ہزار فوج لے کر ان کے مقابلہ کے لئے گئے نہایت ہولناک جنگ ہوئی۔ میدان میں خون کی کثرت سے گھوڑوں کی ٹاپ پھسلنے لگی۔ نعمان زخم کھا کر گھوڑے سے گرے۔ لیکن حکم دیا کہ مجھے سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دشمنوں پر بڑھو ان کے بجائے حذیفہ بن میان نے علم سنبھالا۔ شام کے وقت ایرانی فوج نے شکست کھائی۔ قحار فوج کے دستے لئے ہوئے ہمدان تک ان کے تعاقب میں گئے اور اس پر بھی قبضہ کر لیا۔

فتح کے بعد ایک سپاہی نعمان کے قریب سے گزرا۔ اتر کر دیکھا تو دم توڑ رہے تھے۔ سر اٹھایا انھوں نے آنکھیں کھول دیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ فتح! کہا کہ اللہ کا شکر ہے۔ امیر المومنین کو جلد اس کی اطلاع بھیج دی جائے یہ کہہ کر ہمیشہ کے لئے آنکھیں بند کر لیں حضرت عمر کو جب اس فتح کا حال معلوم ہوا

تو بہت خوش ہوئے۔ لیکن نعمان کے غم میں بہت روئے۔

اس جنگ میں تقریباً تیس ہزار ایرانی مارے گئے اور ان کا زور ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد پھر وہ کوئی بڑی لڑائی نہیں لڑ سکے۔ اسی وجہ سے اس فتح کو فتح الفتح کہتے ہیں۔

عام پیش قدمی | احنف بن قیس کی گفتگو کے بعد حضرت عمر کو یقین ہو گیا تھا کہ جب تک یزدگرد ایران میں موجود ہے اس

وقت تک ہمارے مفتوحہ حصوں میں فتنہ اور فساد فرو نہیں ہو سکتا اس لئے انھوں نے بقیہ ایران پر عسکر کشی کا سامان کیا۔ سات علم تیار کئے اور سات سرداروں کو عطا کر کے فوجوں کے ساتھ انکو مختلف مقامات کی طرف روانگی کا حکم دیا۔

۱۔ احنف بن قیس خراسان

۲۔ مجاشع بن مسعود سلمی۔ خرو اور شیر و ساہور

۳۔ عثمان بن ابی العاص۔ ثقفی۔ اصبہ

۴۔ ساریہ بن رہم کنانی۔ قسا و درابجرد

۵۔ مہیل بن عدی۔ کرمان

۶۔ عاصم بن عمرو۔ سیستان

۷۔ حکیم بن عمر تغلبی مکران

یہ فوجیں آغاز ۶۵۱ء میں روانگی کے لئے تیار ہو گئیں۔

**اصفہان** | عبداللہ بن عقبہ فوج لے کر اصفہان کی طرف گئے تھے۔ وہاں  
 کا سپہدار فاذو سقان تھا۔ جب فریقین نے صف آرائی کی  
 تو اس نے عبداللہ کو کہلا بھیجا کہ سپاہیوں کی جانیں ضائع کرانے سے کیا  
 فائدہ۔ اذہم تم خود لڑ کر فیصلہ کر لیں۔ عبداللہ اس کے مقابلہ کے لئے گئے اور کہا  
 کہ پہلے تم مجھ پر وار کرو یا مجھے اجازت دو۔ اس نے کہا میں وار کروں گا۔  
 یہ کہہ کر گھوڑا بڑھایا اور تلوار چلائی۔ عبداللہ نے اس کو خالی دیا۔ لیکن گھوڑے  
 کی تنگ کٹ گئی اور مع زمین کے نیچے آ گئے۔ پھر اچھل کر تنگی پشت پر  
 بیٹھ گئے۔ اور کہا کہ اب میری باری ہے۔ سنبھل جاؤ۔ اس نے کہا بس میں  
 نے آپ کو آزمایا اب لڑنا نہیں چاہتا۔ شہر آپ کے حوالہ کرتا ہوں اس شرط  
 پر کہ جو جزیہ دے کر رہنا چاہے اس کو رہنے دیجئے اور جو نہ رہنا چاہے اس  
 کو نکل جانے کی اجازت عطا فرمائیے عبداللہ نے اس کو منظور کر کے صلحنامہ لکھ  
 دیا۔ اس کے بعد اصفہان میں انھوں نے ایک امیر مقرر کر دیا اور خود حضرت عمر  
 کے فرمان کے مطابق سہیل بن حدی کی امداد کے لئے کرمان کی طرف روانہ ہوئے۔  
**آذربائیجان** | نعمان بن مقرن کے بھائی نعیم جس وقت ہمدان میں تھے  
 ان کو اطلاع پہنچی کہ مقام واج رود میں جو ہمدان اور  
 قزوین کے درمیان صوبہ آذربائیجان میں واقع ہے ایرانی مجتمع ہو رہے ہیں  
 اس لئے وہ فوج لیکر آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔ نہایت کی طرح یہاں بھی



سخت معرکہ پیش آیا۔ اسخر میں ایرانیوں کو ہزیمت فاش ہوئی۔

نعیم دربارِ خلافت کے حکم کے مطابق رے کی طرف بڑھے اور وہاں کے رئیس زبیدی نے آکر صلح کر لی۔ انھوں نے رے میں قیام کیا اور وہاں سے اپنے بھائی سوید بن مقرن کو قوس کی طرف بھیجا وہ بلا جنگ کے فتح ہو گیا۔ نیز جرجان اور طبرستان کے لوگوں نے بھی آکر مصالحت کی۔

سراقہ بن عمرو اور بجان سے باب کی طرف جو صوبہ آرمینیہ سے

**باب**

متصل ہے بڑھے اور اس کا محاصرہ کیا۔ وہاں کاربیس شہر براہِ خود ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایرانی نسل سے ہوں اور اہل آرمینیہ سے جو نہایت بد نسل، کینے اور کینہ و دہن مجھ کو کوئی تعلق نہیں جب تمام ایران مفتوح ہو گیا تو میں بھی تمہارا مطیع ہوں لیکن میرے اوپر جزیہ لگا کر مجھے ذلیل نہ کرو۔ بلکہ جب ضرورت ہو مجھ سے فوجی خدمت لو۔ سراقہ نے اس کو منظور کر لیا اور کہا کہ جزیہ سے ہر سال صرف وہی لوگ بری ہوں گے جن سے اس سال فوجی کام لیا جائے گا۔ حضرت عمرؓ بھی اس مصالحت پر راضی ہو گئے یعنی جزیہ معاف کر کے اہل شہر سے جنگی امداد لینے کو انھوں نے جائز رکھا۔ حالانکہ حضرت ابو بکرؓ نے خالد اور مشنی کو ان مسلمانوں کے فوج میں لینے سے بھی منع فرمایا تھا جو ارتداد کی شورش میں بڑھے گئے تھے۔

سراقہ نے یہاں سے تفلیس، موقان وغیرہ کی طرف جو آرمینیہ کے

سرحدی کو ہستانی مقامات ہیں فوجیں روانہ کیں۔

**خراسان** | یزدگرد خراسان کے مشہور شہر مرو شاہجہاں میں مقیم تھا۔ اس نے وہاں کے رئیسوں اور مرزبانوں کے ساتھ خط و کتابت کر کے

ان کو مسلمانوں سے لڑنے کے لئے متفق کیا۔ احنف بن قیس جن کو خراسان کا علم دیا گیا تھا ۲۲ھ میں وہاں پہنچے۔ پہلا مقابلہ ہرات پر ہوا۔ دشمنوں کو شکست دے کر وہاں قبضہ کیا۔ پھر مرو کی طرف بڑھے۔ یزدگرد مرو کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ترکستان اور چین کے بادشاہوں سے مدد مانگی۔ احنف بھی اس کے پیچھے آئے۔ وہ بلخ کو چلا گیا۔ احنف بھی تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ مقابلہ میں یزدگرد نے شکست کھائی اور دریائے جیحون اتر کر تاتاری حکومت میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر نے احنف کو فرمان بھیجا کہ تم دریائے آگے نہ بڑھو۔

یزدگرد نے چین اور ترکستان کے بادشاہوں سے مدد لیکر پھر دریا کو عبور کیا اور مسلمانوں کے مقابلہ میں صف آرا ہوا۔ لیکن پہلے ہی حملہ میں تاتاری اس کو چھوڑ گئے۔ مجبوراً وہ اس پار چلا گیا مگر اس کے ساتھ کے خراسانیوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی اور اپنے اپنے گھروں میں آکر اپنی اپنی ملکیتوں پر قابض ہو گئے۔ اسلامی عدل و انصاف کے سایہ میں ان کی حالت اس سے بہت بہتر ہو گئی جیسی کہ ایرانی بادشاہوں کے عہد میں تھی۔

## دیگر فتوحات

ساریہ بن زہم نے فسا اور درابجر کو فتح کیا۔ عثمان بن ابی العاص نے اصدخر سہیل بن عدی نے کرمان۔ عاصم بن عمرو نے میستان اور حکیم نے مکران کو۔ ان فتوحات سے اس سرے سے لے کر اس سرے تک سارا ایران اسلامی جھنڈے کے نیچے آ گیا۔

## شام

جنگ یرموک میں حضرت ابو بکر کی وفات اور حضرت عمر کی خلافت کی خبر آ گئی تھی۔ یرموک کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ فوجیں لیکر فحل کی طرف بڑھے۔ یہ مقام علاقہ اردن میں حوران اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ شکست خوردہ رومی ہیں جمع تھے پہلے ہی حملہ میں مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔

## دمشق

یہ شہر زمانہ سابق سے تجارت کا مرکز تھا۔ اس کے ارد گرد مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے ہر طرف سے اس کا محاصرہ کیا۔ بڑے بڑے سردار جو شام کی فتح کے لئے مامور ہوئے تھے ایک ایک دروازے پر اپنی اپنی فوجیں لیکر جم گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے فوج کے ساتھ باب الشرق پر تھے وہ راتوں کو بہت کم ہوتے تھے اور شہر کی حالت کا وہ دم سراسر غ لیتے رہتے تھے۔ ایک رات ان کو یہ معلوم ہوا کہ دمشق کے بطریق کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اہل شہر اس کے جشن میں مجتمع ہیں انہوں نے موقع پا کر شہر بیاہ کی خندق کو مشکوں کے ذریعہ تیر کر عبور کیا اور رومی کا زیستہ بنا کر فصیل پر

چڑھ گئے۔ پھر اپنے چند ساتھیوں کو بھی اوپر چڑھا لیا اور اندر اتر کر پہلے دربانوں کو قتل کیا پھر دروازہ توڑ دیا۔ مسلمان شہر میں گھس گئے۔ رومیوں نے یہ دیکھ کر شہر تباہ کے دروازے کھول دیئے اور جا کر حضرت ابو عبیدہ سے صلح کر لی۔ وہ صلحاً ایک طرف سے شہر میں داخل ہوئے اور دوسری طرف سے خالد فتح کرتے ہوئے۔ وسط شہر میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔

حضرت ابو عبیدہ نے چونکہ مصالحت کر لی تھی اور ان کو خالد کے اندر داخل ہو جانے کا حال نہیں معلوم ہوا تھا۔ اس وجہ سے مفتوحہ حصہ بھی رقبہ صلح میں شامل کر دیا یعنی بل غنیمت واپس کر دیا اور قیدی چھوڑ دیئے۔

دمشق میں معلوم ہوا کہ مزج روم میں دو سپہ سالار تو ذر اور **مزج روم** شنس فوجیں لئے ہوئے پڑے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ اس طرف بڑھے مقدمہ شکر پر خالد تھے۔

صبح کو جب صف آرائی کا وقت آیا تو خیر ملی کہ تو ذر اپنی فوجیں لئے کر دمشق کی طرف بڑھ گیا۔ اس لئے ابو عبیدہ نے فوراً خالد کو سواروں کے دستہ کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ کیا۔

یزید بن ابی سفیان کو جو دمشق میں متعین کئے گئے تھے۔ جب تو ذر کی آمد کا حال معلوم ہوا تو اس کے مقابلہ کو نکلے۔ عین معرکے میں پیچھے سے حضرت خالد پہنچ گئے۔ رومیوں کا ایک سپاہی بھی نہ پناہ سکا۔ یزید دمشق کی طرف



واپس گئے اور خالد ابو عبیدہ کی فوج میں اسکر شامل ہو گئے۔

**حمص** حمص میں رومی فوجیں جمع ہو رہی تھیں۔ مسلمانوں نے پہنچ کر اس کا محاصرہ کیا۔ خارے کا موسم تھا۔ رومیوں نے خیال کیا کہ عرب اس سردی کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمان پورے موسم سرما بھر سختی کے ساتھ محاصرہ کئے ہوئے رہے۔ مجبور ہو کر اہل حمص نے دمشق والوں کی شرط پر صلح کر لی۔

**قنسرین** حمص سے خالد قنسرین کی طرف گئے۔ راستہ میں مقام حاضر میں جو حلب کے متصل ہے رومی فوجیں مقابلہ میں آئیں ان کا سردار میناس تھا جس کے رتبہ کا کوئی آدمی رومی سلطنت میں جبر قبصر کے نہ تھا۔ خالد نے ان کو شکست دی۔ میناس مارا گیا اور اس کی فوج زیادہ تر قتل اور باقی ماندہ گرفتار ہو گئی۔ امیر ان جنگ نے خالد سے کہا کہ ہمارا لڑنے کا مطلق خیال نہ تھا۔ میناس نے جبر ہم کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ خالد نے ان کا عذر قبول کیا اور ان کو چھوڑ دیا۔

وہاں سے قنسرین پہنچے۔ وہ لوگ قلعہ گیر ہو گئے۔ خالد نے محاصرہ کیا۔ اور کہلا بھیجا کہ تم لوگ اگر آسمان پر بھی چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو بھی ہم سے نہیں بچ سکتے۔ یا تو اللہ تعالیٰ ہم کو تم تک پہنچا دے گا یا تم کو ہمارے پاس آنا دے گا۔ بالآخر ان لوگوں نے بھی حمص والوں کی طرح صلح کی۔



حضرت عمر نے جب خالد کے کارنامے سُننے تو فرمایا کہ نہ۔

اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ وہ مجھ سے زیادہ مردم شناس  
تھے اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے خالد اور مثنیٰ کو کسی شہر کی بنیاد پر  
نہیں معزول کیا تھا بلکہ محض اس لئے کہ میں چاہتا تھا کہ مسلمان  
صرف انھیں کے اوپر زیادہ بھروسہ نہ کرنے لگیں۔

قیساریہ پر یزید بن ابی سفیان بھیجے گئے تھے لیکن وہ بیمار ہو گئے  
قیساریہ | انھوں نے اپنے بجائے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو  
بھیجا انھوں نے اس کو فتح کر لیا۔

عمر بن العاص جو فلسطین پر متعین تھے اجنادین کی طرف بڑھے  
اجنادین | وہاں رومیوں کا سب سے چالاک سردار ارطہون تھا۔ حضرت  
عمر نے فرمایا کہ رومی ارطہون کے مقابلہ میں ہمارا عربی ارطہون پہنچا ہے۔  
دیکھیں کون بازی لے جاتا ہے۔

عمر بن عاص ایک عرصہ تک محاصرہ کئے ہوئے پڑے رہے اس  
درمیان میں سفیر بھی فریقین کی طرف سے آتے جاتے رہے لیکن نہ صلح  
ہو سکی نہ فتح کی کوئی صورت نکلی ایک بار عمرو خود سفیر بن کر اس کے دربار میں  
گئے اس نے ان کی باتوں سے سمجھ لیا کہ یہی عمر بن عاص ہیں ایک آدمی کے  
رومی میں کہا کہ تم وہی رومی ہیں کھڑے رہو۔ جس وقت یہ یہاں سے نکلیں۔

ان کو قتل کر دینا۔ انھوں نے اندازہ سے اس کے منصوبے کا پتہ پالیا۔ اور دوران گفتگو میں اس سے کہا کہ تم نے جو باتیں کہیں وہ مناسب معلوم ہوتی ہیں لیکن ہم دس آدمی ہیں جو خلیفہ کی طرف سے اس کام کے لئے یہاں آئے ہیں۔ لہذا ان سب کی راستے یعنی بھی ضروری ہے۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم سب لوگ کل تمہارے پاس آکر معاملہ طے کر ڈالیں۔ اس لئے اس بات کو منظور کیا اور یہ سوچ کر کہ کل اور بھی اچھا موقع ملے گا اس آدمی کو خفیہ طور پر دہلیز سے ہٹا دیا۔ عمرو بن عاص صحیح و سالم بیچ کر وہاں سے نکل آئے اور پھر یہ عہد کیا کہ ایسی غلطی آئندہ کبھی نہ کر دیں گا۔

ارطون کو جب معلوم ہوا تو اس نے کہا افسوس، میں نے دھوکا کھایا۔ یہ شخص مجھ سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ اس کے بعد اسلامی فوج نے فہیل کے چاروں طرف سے جنگ شروع کر دی۔ ارطون فوجیں لے کر نکلا۔ یہ لوگ کی طرح سخت لڑائی ہوئی۔ آخر میں مسلمان غالب آئے۔ رومی شکست کھا کر بیت المقدس کی طرف چلے گئے اور عمرو بن عاص نے اجنادین میں قیام کیا۔

**بیت المقدس** | اجنادین میں عمرو بن عاص نے فوج کو مرتب کیا۔ اور بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ فہیل کے چاروں طرف سے محاصرہ کیا۔ رومی جب تنگ آگئے تو انھوں نے کہا ابھیجا کہ ہم مصالحت کے لئے رضامند ہیں بشرطیکہ خود خلیفہ اسلام ہمارے ساتھ معاہدہ کرے۔ حضرت عمر کو

اس کی اطلاع دی گئی۔ وہ روانہ ہوئے اور امرار لشکر کو حکم بھیجا کہ مقام جاہلیہ میں آکر مجھ سے ملیں۔ سب سے پہلے یزید اور پھر ابو عبیدہ وغیرہ دوسرے امرار نے ان کا استقبال کیا۔ مسلمانوں نے دیا اور حریر کے لباس پہن رکھے تھے۔ حضرت عمر نے جو دیکھا تو طیش میں آگئے۔ سنگریزے اٹھا کر ان کو مارا۔ اور کہا کہ اس قدر جلد تم لوگوں نے عجمیت اختیار کر لی اور عربی سادگی چھوڑ دی انہوں نے کہا۔ یہ ریشمی لباس ہم نے اس لئے پہنا ہے کہ ہر وقت ہمارے بدن پر ہتھیار رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو کچھ حرج نہیں۔

مقام جاہلیہ میں ہی بیت المقدس والوں کی طرف سے سفیر پہنچے ان کے ساتھ عہد نامہ ہوا مضمون یہ تھا۔

ان لوگوں کا جان و مال اور دین محفوظ رہے گا نہ ان کے کینے توڑے جائیں گے نہ ان میں کوئی مسلمان سکونت رکھے گا اور نہ ان کی حدود میں کمی کی جائے گی۔ یہ لوگ بھی دوسرے شہر والوں کی طرح جزیہ ادا کریں گے اور یہودیوں کو اس میں نہ رہنے دیں گے۔ جو رومی یہاں ہیں وہ نکل جائیں تو ان کو ان کے گھر پہنچنے تک امان ہے۔ نیز جو شخص بھی ان کے ساتھ جانا چاہے اس کو بھی امان ہے۔ وغیرہ۔ ۱۵ھ میں عہد نامہ لکھا گیا۔ خالد بن ولید عمرو بن عاص۔ عبدالرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان اس کے شاہد ہیں۔

جہاز سے بیت المقدس کو گئے۔ وہاں اسلامی فوج نے استقبال کیا۔  
 خلیفہ کے بدن پر جو لباس تھا وہ اس قدر فقیرانہ تھا کہ مسلمان اس کو دیکھ کر سراسر  
 تھے۔ وہ ان کے لئے ایک ترکہ گھوڑا اور قیمتی لباس لائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ  
 ہم کو جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی عزت ہمارے لئے کافی ہے۔  
 بیت المقدس میں کینسہ تمامہ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز کا وقت آگیا۔ تبرک  
 نے کہا کہ آپ اسی میں نماز پڑھ لیں لیکن انھوں نے باہر نکل کر زینہ پر تہا نماز ادا  
 کی۔ اس کے بعد تبرک سے کہا کہ آج اگر میں تمہارے کینسہ میں نماز پڑھ لیتا تو کل  
 مسلمان اس پر قبضہ کر لیتے اور کہتے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی۔ پھر اس  
 زینہ کے متعلق ایک تحریر لکھ کر دی کہ یہاں نہ اذان دی جائے نہ جماعت ہو۔  
 تبرک اور نیزاہل رستے کے مشورہ سے مقام صخرہ کو جہاں حضرت یعقوب سے  
 اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، مسجد بنانے کے لئے منتخب کیا۔ اس پر خاک اور دھول  
 بہت تھی۔ حضرت عمر نے اسے خود اپنے ہاتھ سے دامن میں بھر کر اٹھانا شروع کیا۔ یہ  
 دیکھ کر سب لوگ اس کام میں لگ گئے اور کھوڑی دیر میں وہ جگہ صاف ہو گئی۔ پھر  
 وہاں مسجد تعمیر کی گئی جو اب تک مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے۔  
 بیت المقدس میں حضرت عمر نے مغلوب عیسائیوں کے ساتھ رواداری  
 کا جو سلوک کیا اور مسلمان لڑا رہنے جس وفاداری کے ساتھ اس عہد کو نبایا اسکی  
 قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ سختی دیکھی جائے جو یورپ کے صلیبی



فدائیوں نے اس شہر پر قبضہ کرتے وقت یہاں کے باشندوں کے ساتھ کی۔

اسلام میں دوبارہ حضرت عمر نے شام کا سفر کیا۔ اور  
**طاغون عمواس** مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر چلے

جب مقام سرغ میں پہنچے اور امراء شکر استقبال کو حاضر ہوئے تو ان کی زبانی  
 معلوم ہوا کہ ملک شام میں طاغون پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے  
 مشورہ کیا کہ ایسی حالت میں آگے چلوں یا مدینہ کو واپس جاؤں۔ بہت قیل و قال  
 کے بعد واپسی کی رائے قرار پائی۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ کیا تقدیر الہی  
 سے فرار ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی  
 طرف۔ اسے ابو عبیدہ اکاش یہ تمہارے سوا کوئی دوسرا کہتا۔

دوسرے دن صبح کو عبدالرحمن بن عوف آگے جوکل کی بحث میں شریک  
 نہیں تھے۔ ان کو جب ان باتوں کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے کہا کہ میں نے  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم کو معلوم ہو کہ کسی شہر میں  
 وبا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب تمہاری بستی میں آئے تو اس کے خوف سے  
 نہ بھاگو۔ حضرت عمر نے یہ سن کر اللہ کا شکر یہ ادا کیا اور مدینہ واپس آئے۔

یہ وبا طاغون عمواس کے نام سے مشہور ہے۔ بہت سے لوگ اس میں  
 ہلاک ہوئے۔ اسلامی فوج کے امراء میں سے حضرت ابو عبیدہ۔ معاذ بن جبل  
 یزید بن ابی سفیان۔ عمارت بن ہشام۔ سہیل بن عمرو ان کے جڑے عتبہ سب



اسی میں مبتلا ہو کر گزر گئے۔ اسٹری میں عمرو بن عاص فوج لے کر بہار پر چلے گئے اور ان کو بجایا متفرق کر دیا۔ اس وقت اس سے نجات ملی۔

طاعون کے دفع ہونے کے بعد حضرت علی کو اپنا قائم مقام کر کے پھر حضرت عمر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ صرف ان کا غلام یرقار ان کے ساتھ تھا جس وقت پہنچے ہیں اپنی سواری ان کو دے دی تھی اور خود اس کے اونٹ پر سوار تھے۔ وہاں پہنچ کر ملکی اور فوجی انتظامات کئے۔ طاعون کی وجہ سے فوج کے ہزاروں سپاہی مر گئے تھے۔ ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو مقرر کیا۔ مردوں کا مال و اسباب ان کے ورثہ کو پہنچایا اور سرحدوں کی حفاظت کے لئے فوجیں متعین کیں۔

ایک دن نماز کے وقت لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت بلالؓ سے اذان کہلائیے۔ خلیفہ کے حکم سے انھوں نے اذان دی۔ چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص تھے اس لئے ان کی اذان سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے لوگوں پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے۔ حضرت عمر کی یہ حالت تھی کہ ڈاڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔

رومی انوار کا ایک بڑا مرکز مصر تھا۔ وہاں سے ان کو ہر قسم کی مدد  
مصر  
ملتی تھی۔ عمرو بن عاص کا خیال تھا کہ ہم اگر مصر فتح کر لیں تو پھر  
شام میں رومی فوجیں بہاراً مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ حضرت عمر نے

جب دوبارہ ملک شام کا سفر کیا تو انھوں نے اپنے اس خیال کو ظاہر کیا۔  
خلیفہ نے پہلے تو انکار کیا۔ لیکن پھر ان کے اصرار سے رضامند ہو گئے اور چار  
ہزار فوج دے کر مصر کی طرف روانہ کیا۔

پہلے شہر قرنا میں رومی فوجوں سے مقابلہ ہوا۔ تقریباً ایک مہینے تک لڑائی  
ہوتی رہی۔ آخر میں رومیوں کو شکست ہوئی۔ وہاں سے دریائے نیل کے  
کنارے مصر کی طرف بڑھ کر اسلامی فوج خیمہ زن ہوئی۔

مقوقس والی مصر جو قبلی نژاد تھا مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے فوجیں  
تیار کر رہا تھا۔ جب مسلمان اس کے قریب پہنچ گئے تو وہ قلعہ میں بیٹھ  
رہا۔ اس کا محاصرہ کیا گیا۔ امداد کے لئے حضرت عمر نے زبیرؓ اور مقدادؓ  
کے ساتھ دس ہزار فوج بھیجی۔ یہ محاصرہ سات مہینہ رہا۔ حضرت زبیرؓ ایک  
دن زینہ لگا کر فصیل پر چڑھ گئے اور اندر اتر کر قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان  
شہر میں داخل ہو گئے۔ مقوقس نے امان طلب کی۔ اس کی درخواست منظور  
کی گئی۔

یہ عہد نامہ تمام ملک مصر کے لئے تھا لیکن قیصر نے اس کو نہیں تسلیم  
کیا اور سمند کی راہ سے ایک فوج گراں اسکندر یہ میں اتار دی۔ مسلمان  
بھی اس طرف بڑھے۔ مقوقس چونکہ لڑنا نہیں چاہتا تھا اس لئے اس نے  
مسلمانوں سے عہد لے لیا کہ میری قوم کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔

ہم لوگ اس لڑائی میں رومیوں کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ چنانچہ جب مسلمان اندرون ملک میں بڑھے تو انھوں نے قبیلوں سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا۔ قبیلوں نے بھی جا بجا ان کو مدد دی۔ البتہ رومی جو وہاں سکونت گزین ہو گئے تھے اسکندریہ کے راستہ میں کئی بار مقابلہ کے لئے آئے لیکن شکست کھاتے رہے۔ اسلامی فوج نے جا کر اسکندریہ کا محاصرہ کیا۔ چونکہ رومیوں کو سمندر کی راہ سے سامانِ رسد وغیرہ پہنچاتا تھا اس لئے اس محاصرہ نے طول کھینچا۔ آخر میں مصالحت ہوئی۔ اسکندریہ رومیوں کے ہاتھ میں چھوڑ کر مسلمان مصر کی طرف واپس آئے۔

حضرت عمر کے حکم سے عمرو بن عاص نے وہاں فوج کے قیام کے لئے ایک شہر آباد کیا جو قسطنطین کے نام سے مشہور ہے۔ قسطنطین خیمہ کو کہتے ہیں اور مسلمان پہلے اسی جگہ خیمہ زن ہوئے تھے۔

یہ بات یہاں ذکر کرنے کے قابل ہے کہ اسکندریہ کی طرف روانگی کے لئے جس وقت فوج کے خیمے اکھاڑے جا رہے تھے تو عمرو بن عاص کے خیمے میں ایک کبوتر نے گھونسل بنا لیا تھا۔ انھوں نے اس پرندے کی خاطر سے اپنے خیمہ کو بدستور چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کو نہ اکھاڑو ورنہ ہمارے اس مہمان کو تکلیف ہوگی۔

حضرت عمر بن خطاب کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ یہیں تک پہنچا تھا

مشرق میں دریائے جیحون تک اور مغرب میں شام اور مصر اسلامی جھنڈوں کے نیچے لگے تھے ان تمام ممالک کا انتظام اسلامی عدل کے اصول پر قائم کیا گیا اور ہر قسم کے ظلم و ستم جو جاہل بادشاہوں کے ہاتھوں سے رعایا پر ہوتے تھے مٹا دیے گئے اور ذمی امن و امان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔

## عہدِ فاروقی پر ایک نظر

**فتوحات** | عہدِ فاروقی کی یہ تمام فتوحات ساڑھے دس برس کا کارنامہ ہیں اس قلیل عرصہ میں اسلامی مقبوضہ کا کل رقبہ ۱۰۳۰۵۱ میل مربع تک پہنچ گیا اور یہ فتوحات مغلوب اور گمنام عربی قوم نے ایک ساتھ دو عظیم الشان سلطنتوں پر حاصل کیں جو اس زمانہ میں دنیا میں سب سے زبردست اور متمدن تھیں یعنی ایران و روم۔

ایران کی حالت یہ تھی کہ زمانہ قدیم سے وہ مسلمہ طاقت و سلطنت تھی۔ آغاز اسلام میں وہاں کی فوجوں نے رومیوں پر مسلسل فتوحات حاصل کی تھیں اور ان کو سواحل بحیرہ روم تک بھگا دیا تھا۔ گو جس وقت عرب ان پر حملہ آور ہوئے ہیں اس وقت نزاعات باہمی کی وجہ سے ان کی حالت خراب تھی لیکن پھر بھی عربوں کے لئے ان کا ایک ایک امیر کافی تھا ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں جنگ آزمودہ فوج تھی جو آئین لڑنے و پیکار کی ماہر اور ہر قسم کے آلات جنگ اور فوجی



ساز و سامان سے مسلح و آراستہ تھی سلطنت کے خزانے ان کے لئے کھلے ہوئے تھے۔

رومیوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ایک ایک معرکہ میں دو دو لاکھ فوجیں میدان جنگ میں لاتے تھے۔ دولت اور سامان کی ان کے پاس کمی نہیں تھی فنون حرب میں مشاق اور میدان جنگ میں تربیت پائے ہوئے تھے۔

ادھر اہل عرب کی کیفیت یہ تھی کہ کسی ایک معرکہ میں بھی وہ پچاس ہزار سے زیادہ کی جمعیت نہ لاسکے۔ زرہ بکتر چلتے۔ جوشن۔ چار آئینہ۔ آہنی دستانے

وغیرہ جو اس زمانہ میں سپاہی کے لئے لازمی چیزیں تھیں۔ ان میں سے ان کے

پاس صرف زرہ تھی جو اکثر چمڑے کی ہوتی تھی۔ رکاب لہسے کے بجائے

لکڑی کی بنائے تھے۔ گرز و کمان سے نا آشنا اور ترتیب فوج اور فنون جنگ سے

ناواقف مگر باوجود ان سب باتوں کے انھوں نے دونوں سلطنتوں سے

ایک ساتھ لڑائی شروع کی۔ ہر ہر معرکہ میں انھیں کو فتح حاصل ہوئی اور ایک

قلیل عرصہ میں ان دونوں قدیمی اور زبردست سلطنتوں کے پرچھے اڑا دیئے۔

یادی النظر میں ان فتوحات کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور خیال ہوتا ہے

کہ یہ تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ لیکن غائر نظر ڈالنے سے کچھ اسباب

کا بھی پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اہل عرب میں اسلام کی تعلیم اور آنحضرت کی صحبت پاک

کے اثر سے بنیظیر محبت، ایثار، استقلال، عالی ہوشی اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی



اور وہ اخلاق فاضلہ میں انسانیت کی انتہائی بلندی پر پہنچ گئے تھے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے تبلیغِ حق کا کام لینا تھا اس لئے ان میں ملکہ ترقی صفات پیدا کر کے ان کے دلوں کو باہم متفق کر دیا تھا۔ وہ ان اوصاف کے ساتھ اقوامِ عالم کے سامنے حق کو پیش کرنے کے لئے نکلے جیسی حالت میں کون سی دنیاوی طاقت ہو سکتی تھی جو ان کی ٹکر کو اٹھا سکتی۔

ہر ملک کی رعایا ان کی عدل و انصاف اور وفاداری اور راست بازی کی وجہ سے ان کی گرویدہ ہو جاتی تھی بلکہ ان میں سے اکثر اسلام قبول کر کے اس لشکرِ حق میں شریک ہو جاتے تھے یا جزیرہ دنیا قبول کر لیتے تھے۔

لیکن یہ امتِ عربیہ کی تعریف ہے (حضرت عمر کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے امت کے ان صفات عالیہ کی تربیت کی اور ان سے کام لیا ورنہ یہی لوگ ان کے بعد بھی تھے مگر وہ شان کہاں رہی۔

فدوقِ اعظم گو بذاتِ خود ان لڑائیوں میں سے کسی ایک میں بھی شریک نہیں ہو سکے لیکن ان کی دور بین نگاہ ان فوجوں کے جو ایران و روم میں مصروف پیکار تھیں جو وہی سے جو وہی واقعہ کی طرف بھی رہتی تھی سلسلہ وار ہدایات اور احکام بھیجتے رہتے تھے ان کی حالت اگر خود سے دیکھی جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان فوجوں کے اصلی سپہ سالار وہی تھے اور مدینہ میں بیٹھے ہوئے ان کو یوپی توجہ کے ساتھ دونوں طرف لڑا رہتے تھے۔

دنیا میں اور جو بڑے بڑے فاتح ہوئے ہیں ان کو دیکھو تو وہ حضرت عمر  
 کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتے کیونکہ ان کے کارنامے سفالکیوں اور خون  
 ریزیوں سے لبریز ہیں اور ان کی فتوحات اسلامی اصول کی پابندی کے ساتھ  
 ہوئیں جن میں ناجائز خون کا ایک قطرہ اور نالانصافی کا ایک داغ نظر نہیں آتا۔  
 اس احتیاط کے ساتھ دنیا میں زمین کا ایک چپہ بھی کسی کشور کشا نے نہیں لیا۔

اسلام کل نبی نزع انسان کو جو اس کے حدود میں داخل ہوں  
 چھوڑ دیتا ہے مساوت عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانہ میں قتال

حکومت بلکہ خود غلیفہ بھی ایک معمولی فرد عیال کے برابر تھا ہر شخص کو اس کے اپنے  
 مکنت چینی کا اختیار تھا اور یہی وہ چیز ہے جو جمہوریت کی اصلی روح ہے۔

وہ کسی امر کو بذات خود بلا مشورہ کے طے نہیں کرتے تھے بلکہ ہاجرین اور  
 انصار سے ہر کام میں رائے لیتے تھے اور جب کوئی بڑی مہم درپیش آ  
 جاتی تھی تو مسلمانوں کے مجمع عام میں اس کو پیش کرتے تھے اور ان سے  
 ادنیٰ آدمی بھی اگر کوئی صحیح رائے دیتا تھا تو اس کو فوراً مان لیتے تھے۔

ایک بار جب انھوں نے دیکھا کہ لوگوں نے عورتوں کے مہروں میں  
 بہت اضافہ کر دیا ہے چاہا کہ کوئی خاص حد مقرر کر دیں۔ مسجد میں لوگوں  
 کے سامنے بیان فرمایا۔ کسی کو نے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ یہ کیا! اللہ  
 تعالیٰ تو فرماتا ہے :-

وَأَيُّكُمْ أَحَدٌ أَهْلٌ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُ وَمِنْكُمْ

اور تم نے بیویوں میں سے کسی کو بہت سال دے دیا تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔

یہ سن کر بول اٹھے کہ عورت نے سچ کہا۔ عمر غلطی پر تھا۔  
( ہمیشہ لوگوں سے یہی کہتے رہتے تھے کہ جو خیر خواہی کی بات ہو مجھ تک پہنچاؤ۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے راہِ حق دکھاؤ اور جو حق پر چل رہا ہوں تو میری مدد کرو۔

ایک بار مسجد میں اسی قسم کی تقریر کی۔ ایک شخص نے اٹھ کر تلوار کھینچ لی اور کہا کہ اگر آپ حق سے منہ موڑیں گے تو ہم اس کے ذریعے سے راہِ راست پر لائیں گے۔ یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ الحمد للہ میری قوم میں ایسے لوگ ہیں کہ میں اگر کجروی اختیار کروں تو وہ مجھے سیدھا کرنے کے لئے تیار ہیں۔ صحابہ کبار میں سے صاحبانِ عقل و رائے مثلاً حضرت عباسؓ، محمد بن حنفیہؓ، بن عوف، عثمانؓ، ادریسؓ وغیرہم رضی اللہ عنہم کو مشورہ کی غرض سے سفر اور حضر میں اکثر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

اجتماعیات کے متعلق ان کی یہ رائے تھی کہ مسلمانوں کی مجلسیں منحصر اشخاص پر محدود نہیں ہونی چاہئیں بلکہ ہر قسم کے لوگ باہم ملکر بیٹھا کریں۔ کیونکہ چند اشخاص جب اپنی محفل کو مخصوص کر لیتے ہیں تو ان کی رائے عام

رائے سے الگ ہو جاتی ہے اور اس اختلاف رائے کا نتیجہ ہے تفریق میں  
 رائے نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنی مجلسوں کو عام رکھو اور سب باہم ملکر  
 بیٹھو۔ اس سے آپس میں محبت بڑھے گی اور اتحاد و اتفاق قائم اور دشمنوں پر  
 رعب غالب رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ کہیں کہ فلاں کی  
 رائے یہ تھی اور فلاں کا خیال یہ تھا کیونکہ اس سے اسلام کے ٹکڑے ہو جائیں گے  
 اور امت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔

**عمال حکومت** حضرت عمر امراء کی مصلحت خاصہ پر رعایا کی بہبود عامہ کو  
 مرعع سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں والی بھی رعایا کا ایک

فرد تھا۔ اس کے اوپر بھی قانون عدل اسی قدر حاوی تھا جس قدر دوسرے  
 لوگوں پر۔ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بھی اگر کسی عامل کی شکایت کر دیتا تھا تو عدل  
 فاروقی اس عامل کو لاکر اس کے برابر کھڑا کر دیتا تھا اور پھر جس سزا کا وہ مستوجب  
 کھرتا اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔

مدیرین سیاست کی رائیں اس مسئلہ میں مختلف ہیں بعض لوگ معمولی باتوں  
 پر عمال حکومت کی گرفت کو سلطنت کے رعب کے منافی سمجھتے ہیں۔ ان  
 کی یہ رائے اس وقت جب کہ ملک میں کسی قسم کا اضطراب ہو درست معلوم  
 ہوتی ہے کیونکہ ایسی حالت میں مصلحت عامہ کے لئے عمال کا رعب مفید ہوتا ہے  
 اور غالباً یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے امراء کے اقتدار کا زیادہ لحاظ رکھتے تھے۔



کیونکہ ان کے عہد میں جا بجا شور و شین برپا تھیں۔ لیکن حضرت عمر مسادات کے عاشق تھے اور ان کا عہد بھی اندرونی شورش سے پاک تھا اس لئے وہ بڑے سے بڑے والی اور امیر اور ادنیٰ سے ادنیٰ رعیت کے فقیر کو یکساں سمجھتے تھے۔

جب وہ کسی کو کسی علاقہ کا عامل مقرر کرتے تھے تو اس کو اس کے ذمہ اچھی طرح سمجھا دیتے تھے۔ خود اس کو رخصت کرنے کے لئے جلاتے تھے اور روانگی کے وقت تک مساوات اور عدل کا سبق دیتے رہتے تھے مسلمانوں کے مجمع عام میں بار بار اس کی تصریح کرتے تھے کہ عمال اس لئے مقرر کئے جاتے ہیں کہ اُمت کو دین کی تعلیم دیں۔ سنت پر چلائیں۔ مال غنیمت تقسیم کریں۔ خرچ اور زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک پہنچائیں نہ کہ خود اس میں مساپنا حصہ لگائیں یا رعایا کو ستائیں۔ اگر میرے پاس اس قسم کی کوئی شکایت کسی والی کی آئی تو میں صاف صاف کہتا ہوں کہ اس کو ضرور اس کی سزا دلواؤ گا۔

حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ اگر کوئی امیر اپنی رعایا میں سے کسی کو ادب دینے کے لئے سزا دے تو کیا آپ اس کا بدلہ لیں گے۔ فرمایا کہ ہاں ضرور بدلہ لوں گا۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے بدلہ لینے کے لئے تیار ہو جاتے تھے، میں یہ کیونکر گوارا کر سکتا ہوں کہ کوئی امیر کسی شخص کو ذلیل کرے یا مارے یا اس کا حق زائل کرے۔

یہی وجہ تھی کہ انھوں نے عام حکم دے رکھا تھا کہ امرا اور عمال ہر سال حج کے موسم میں مکہ میں آکر مجھ سے ملیں وہاں جس شخص کو ان کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ پیش کرے۔ اس رموانی عام سے ڈر کر ان کے عہد میں ملک کے تمام کارپردازانصاف و احتیاط اور عدل و مناسبات کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کرتے تھے۔

جس امیر کی شکایت ان کے پاس پہنچتی تھی اس کو بلا کر پوری تفتیش کرتے تھے۔ حضرت سعد فاتح قادسیہ و مدائن کی جب شکایت ہوئی تو ان کو بلا کر مجمع عام میں تحقیقات کی اور جب وہ بری ثابت ہوئے تو فرمایا کہ اے سعد امیرا گمان بھی تمہارے متعلق یہی تھا۔ مغیرہ بن شعبہ والی لہجہ پر جب الزام لگایا گیا تو ان کو بھی طلب کیا۔ گواہ چھوٹے ثابت ہوئے لہذا ان پر حد شرعی جاری کی۔ عمار بن یاسر والی کو فدی کی شکایت ہوئی کہ یہ طے نہ حکومت سے واقف نہیں ہیں۔ ان کو بلا کر چند سوالات کئے معلوم ہوا کہ شکایت صحیح ہے اس لئے معزول کر دیا۔ عمرو بن عاص والی مصر پر ایک قبیلے نے نالیش کی کہ ان کے بیٹے عبداللہ نے بلا وجہ مجمع عام میں مجھ کو مارا۔ دونوں باپ بیٹوں کو مصر سے طلب کیا اور عبداللہ کو سزا دی۔

بجز چند امرا کے جن میں ابو عبیدہ اور امیر معاویہ ممتاز تھے ان کے عہد میں کوئی عامل یا والی ان کی باز پرس سے محفوظ نہیں رہا۔

ان سب پر مزید یہ کہ انھوں نے محمد بن مسلمہ کو جن پر وہ کامل اعتماد رکھتے تھے امراء اور عمال کی نگرانی کے لئے مقرر کیا تھا وہ ہر جگہ کا دورہ کرتے تھے ہر شخص کو کامل آزادی تھی کہ ان کے پاس جا کر عامل کی جو شکایت ہو، بلا کم و کاست بیان کرے وہ علیٰ زور اس الاقہاد اس کی تحقیقات کرتے تھے حضرت عمر کا ہاتھ اس قدر قوی تھا کہ یہ ناممکن تھا کہ کوئی والی اپنے اقتدار کی وجہ سے کسی شہادت پر اثر ڈال سکے۔

عمال کی آمدنی اور خرچ اور ان کی ثروت پر بھی نظر رکھتے تھے اگر کسی کے پاس آمدنی سے زیادہ ذخیرہ دیکھتے تھے تو اس سے پریشانی کرتے تھے کارپردازان حکومت کو تجارت کی قطعی اجازت نہ دیتی۔

حضرت عمر جس قدر امراء اور عمال کے لئے سخت تھے اسی قدر رعایا کے لئے نرم۔ ان کی بہبود اور فلاح کے

## بہی خواہی امت

خیال میں ہمیشہ غرق رہتے تھے اور خلافت کی عظیم الشان ذمہ داری کا ان کو حد سے زیادہ احساس تھا فرماتے تھے کہ اگر ساحل فرات پر بھی کوئی اونٹ ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسکی جوابدہی کرنی پڑے گی۔ قبائل کے دفاتر خود اٹھا کر لے جاتے تھے اور بچوں اور عورتوں کو نام بنام بلا کر خود ان کے ہاتھوں میں ان کا وظیفہ دیتے تھے۔ نواح مدینہ میں راتوں کو گشت لگاتے تھے اور اکثر جب کوئی قافلہ وہاں آکر اترتا تھا

تو خود جا کر رات کو پاسبانی کرتے تھے۔

ایک رات اپنے غلام اسلم کو لے کر مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر  
مقام صرار میں پہنچے دیکھا کہ ایک خیمہ میں ایک بڑھیا کچھ پکار رہی ہے اور  
چند بچے اس کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ قریب جا کر کیفیت دریافت  
کی اس نے کہا کہ یہ بچے بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ ہانڈی میں  
کیا پک رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں بچوں کو بہلانے کے واسطے خالی  
پانی چڑھا دیا ہے کہ کھائے کی امید میں ان کا جی بہل جائے اور سو جائیں یہ  
من کر کانپ اٹھے اور اپنے غلام کو ساتھ لے ہوئے فوراً مدینہ واپس آئے  
بیت المال کا دروازہ کھولا۔ آٹے کا کھنڈا اور گھی کا برتن اٹھایا۔ غلام نے کہا  
کہ میرے کندھے پر رکھ دیجئے۔ فرمایا کہ کیا قیامت میں بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے  
خود لاکر بڑھیا کے سامنے رکھ دیا اور چولہا پھونکنے لگے۔ اس نے پکار  
بچوں کو کھلایا۔ جب وہ کھا کر خوش ہو گئے اور منسنے اور کھیلنے لگے تو وہاں  
سے واپس چلے۔ بڑھیا نے کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ خلیفہ تم کو  
ہونا چاہیے نہ کہ عمر کو۔ فرمایا کہ کل تم مدینہ میں اپنے بچوں کو لیکر خلیفہ کے  
پاس آؤ وہاں انشاء اللہ تمہیں ملوں گا۔ تمہارا کچھ وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔  
پھر حنظلہ کہ یہ جزوی واقعات ہیں لیکن ان سے ان کی رعیت پروری  
اور شفقت کا اندازہ ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنے فرض اور مسئولیت



کا کس قدر ان کو احساس اور خوف تھا۔

یا وجود اس شفقت اور رحمت کے ان کی ہیبت اس قدر دلوں پر چھانی ہوئی تھی کہ بڑے بڑے اُمراء ان سے بات کر لے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے اور زیادہ تر حضرت عثمان اور عبدالرحمن بن عوف کے توسط پر اپنے معاملات ان تک پہنچاتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک درہ یعنی ایک چھوٹا عصارہ ہوتا تھا جس کا خوف لوگوں کے اوپر تیغ و دم سے بھی زیادہ تھا اور بجز چند صحابہ کبار کے اس سے نیچے بھی کم لوگ تھے۔

ایک بار لوگوں نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ خلیفہ کا رعب ہمارے اوپر اس قدر ہے کہ ہم ان کے آگے لب نہیں ہلا سکتے بلکہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہوئے بھی دل لرزتا ہے اٹھوں نے حضرت عمر سے اس کو بیان کیا فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس قدر لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ میں خود ان سے ڈرتا ہوں کیونکہ ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔

ایک شخص جو نہ محافظ رکھتا ہو نہ دربان نہ اس کے پاس نیزہ ہو نہ تلوار لباس میں پیوند در پیوند لگے ہوئے ہوں ادنیٰ ادنیٰ رعیت کی خود خدمت کرتا ہو اس کے رعب کا یہ عالم اس کو سوائے جلال حق کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

حضرت عمر جس طرح خود عدل و مساوات کے عاشق تھے اسی طرح یہ چاہتے تھے کہ ہر

بیت المال کی حفاظت

مسلمان اس کا خیال رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی مثال سے اس کو لوگوں کے خاطر نشین کرنا چاہتے تھے۔

بیت المال کے خزانے کو سوائے مستحقین کے اور کسی کے لئے حلال نہیں سمجھتے تھے۔ خود اپنے اخراجات کے لئے اس قدر کم رقم لیتے تھے کہ نہایت تنگی سے بسر اوقات ہوتی تھی۔ جو کی روٹی ان کی غذا تھی اور زمیروں کا تیل ان کا سالن۔ حضرت عثمان اور زبیر وغیرہم رضی اللہ عنہم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ترس کھا کر ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہمارا نام ظاہر نہ کریں۔ لیکن اپنے باپ سے جا کر یہ کہیں کہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ بیت المال سے جو ذرہ نہ لیتے ہیں وہ آپ کے لئے کافی نہیں ہے اس میں کچھ اور اضافہ کیجئے۔ انھوں نے جا کر جب کہا تو فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایسی ترغیب دیتے ہیں میں ان کی خبر لوں گا۔ حضرت حفصہ نے کہا کہ ان کا نام ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔ فرمایا اچھا تم میرے اور ان کے درمیان میں ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحے نہیں کئے۔ پوچھ لگے ہوئے کپڑے نہیں پہنے۔ پھر جب انھوں نے فصولیات دنیا کی طرف توجہ نہیں کی تو مجھے بھی اسی حالت میں رہنے دو۔ میری مثال یہ ہے کہ تین ساتھی ایک منزل کی طرف چلے۔ پہلا پہنچ گیا۔ دوسرا بھی اس کے پیچھے گیا وہ بھی پہنچ گیا۔ اب میں بھی اگر اسی تو شہ پر راضی ہو کر اسی راستہ پر چلوں گا تو اپنے ساتھیوں

سے جاہلوں گا۔ نہیں تو بھٹاک کر دُور جا پڑوں گا۔

اپنے اہل و عیال کو بھی وہ اپنے ہی طرح رکھتے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ عراق کی فوج میں تھے۔ جب مدینہ واپس آنے لگے تو بصرہ کے والی ابو موسیٰ اشعری نے ان سے کہا کہ یہاں خزانہ میں ایک رقم جمع ہے جس کو میں خلیفہ کے پاس بیت المال میں بھیجا چاہتا ہوں تم اس کو لے کر یہاں سے کوئی تجارتی مسلمان خرید لو۔ مدینہ میں پہنچ کر اس کو فروخت کر کے اصل رقم بیت المال میں داخل کر دینا اور نفع خود لے لینا۔ ان دونوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا تو ان کو بلا کر کہا کہ اس کا نفع کہاں ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ یہ مال والی بصرہ نے ہم کو قرض دیا۔ یہاں آ کر ہم نے وہ قرض ادا کر دیا۔ فرمایا کہ صرف امیر المؤمنین کے بیٹوں کو قرض دیا گیا تھا یا ساری فوج کو۔ یہ سن کر عبداللہ خاموش ہو گئے۔ لیکن عبید اللہ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری بھی تو ہمارے اوپر تھی۔ اگر نقصان ہوتا یا یہ مال ضائع ہو جاتا تو ہم کو اپنے پاس سے ادا کرنا پڑتا۔ اس پر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ متاع میں سے نصف ان لوگوں کو دیا جائے اور نصف بیت المال میں داخل ہو۔

اسی طرح جب ایک بار قیصر روم کو خط بھیجا تو ان کی بیوی ام کلثوم نے جو حضرت علی کریم اللہ وجہ کی بیٹی تھیں اسی قاصد کے ہاتھ اپنی طرف سے

ملکہ روم کے لئے کچھ تحفے بھیجے، وہاں سے قیصر نے ان کے لئے ہدیہ بھیجا جس میں موتیوں کی ایک بیش قیمت مالا بھی تھی۔ حضرت عمر کو جب اس کا علم ہوا تو اس کو سلعے کر بیت المال میں داخل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ملکہ روم کا ہدیہ ہے جو نہ آپ کے زیر فرمان ہے نہ اس کے مال سے آپ کو کچھ تعلق ہے۔ فرمایا کہ قاصد مسلمانوں کا تھا اور اس کے اخراجات بیت المال سے دئے گئے تھے۔ ام کلثوم کو صرف اس قدر دلا دیا جتنا ان کا صرفہ پڑا تھا۔

یہ سب تشدد و اپنی ذات اور اپنے متعلقین پر اس لئے تھا کہ لوگوں کو اس بات کا سبق دیں کہ مسلمانوں کے مال سے وہ پرہیز کریں اور بلا استحقاق اس کو نہ لیں۔ جب وہ مسلمانوں کو کسی بات سے منع کرتے تھے تو گھر میں آکر اپنے خیال کو جمع کر کے کہہ دیتے تھے کہ دیکھو لوگوں کو میں نے فلاں چیز سے منع کیا ہے تم اس کے قریب نہ جانا۔ عیب کی نگاہیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں تم میں سے اگر کوئی اس کا مرتکب ہوگا تو اس کو دو فی سزا دیں گا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر نے اُمت عربیہ کی صحیح تشخیص کی۔ اور سیدھے راستے پر ان کو چلایا۔ ان کی مثال اس نسخہ کامل کی تھی جس کے تمام اجزاء مریض کی صحت کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی حصہ کم کر دی جائے تو پھر اس کا وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ زمانہ مابعد میں خلقائے اسلام میں سے کوئی فاروق اعظم جیسا مجموعہ کمالات نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے



کہ امت کسی کے عہد میں اتنے کارہائے نمایاں انجام نہ دے سکی۔

**بیتِ عمر** | اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر نے زینب بن مطلق سے  
جو بنی بکع سے تھیں نکاح کیا۔ ان سے عبداللہ، عبدالرحمن اکبر اور  
ام المومنین حفصہ پیدا ہوئیں۔ یہ مسلمان ہوئی تھیں بلکہ میں ہجرت ہی پہلے انتقال کر گئیں  
دوسری بیوی فلیکہ بنت جرول خزاعی ان سے عبید اللہ پیدا ہوئے۔  
تیسری بیوی قریبہ مخزومیہ تھیں ان دونوں کو اسلام نہ لانے کی وجہ سے صلح  
حدیبیہ کے زمانے میں طلاق دے دی۔

مدینہ میں جمیلہ بنت قیس انصاریہ ان کے نکاح میں آئیں ان کے  
بلبن سے عاصم تھے۔ پھر حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے عقد کیا ان  
سے زیادہ رقیہ اور بچے ہوئے لیکن دونوں بلا اولاد کے گزر گئے۔ امینی  
سے نکاح کیا ان سے عبدالرحمن اصغر پیدا ہوئے۔ آخری بیوی عاتکہ بنت  
زیدہ تھیں۔

**وفات** | مدینہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک ایرانی غلام الولولوفیروز  
نامی تھا اس نے ایک بار حضرت عمر سے شکایت کی کہ مغیرہ نے  
مجھ پر محسول زیادہ لگا رکھا ہے اس کو کم کر دیجئے پوچھا کس قدر ہے اس  
نے کہا کہ دو درہم روزانہ، کہا تم کیا کام کرتے ہو اس نے جواب دیا بخاری نقاشی  
اور مہنگری۔ فرمایا کہ ان دستکاریوں کے ساتھ تو دو درہم روزانہ کچھ زیادہ نہیں

وہ اس فیصلہ سے ناراض ہوا۔

دوسرے دن فجر کے وقت مسجد میں گیا۔ حضرت عمر نماز پڑھا ہے تھے اس نے خنجر دوم سے ان پر کئی وار کئے ایک زخم ناف کے نیچے لگا۔ اور وہی ہلاکت کا باعث ہوا ان کے پیچھے صف میں کلیب بن بکیر لہی تھے ان کو بھی اس نے قتل کر ڈالا۔ جب لوگوں نے اسکو پکڑا تو اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر زخم کھا کر گر پڑے اور کہا کہ دیکھو کس نے مجھے قتل کیا۔ لوگوں نے جب نام بتایا تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ کو کبھی ایک مسجد بھی نہیں کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز پڑھانی اور لوگ حضرت عمر کو اٹھا کر گھر میں لائے۔ جب دوا پلائی گئی تو زخم کی راہ سے باہر نکل پڑی۔ اس لئے یقین ہو گیا کہ یہ جانبر نہیں ہو سکتے۔

حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ حضرت عائشہ کے پاس جا کر درخواست کرو کہ وہ اپنے حجرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مجھے دفن کرنے کی اجازت دے دیں۔ وہ گئے حضرت عائشہ اس خاتہ پر رو رہی تھیں فرمایا کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لئے محفوظ رکھا تھا لیکن حضرت عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ نے واپس آ کر خوشخبری سنائی۔ فرمایا یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔

زخم لگنے کے تیسرے دن ۲۷ ذی الحجہ ۲۳ھ چار شنبہ کے روز شام کو وفات پائی۔ دوسرے دن صبح کو دفن کئے گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق حضرت صہیبؓ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ عمر ۶۳ سال کی تھی۔ کل مدت خلافت دس سال چھ مہینے چار دن تھی۔

**صفاتِ عمرؓ** | حضرت عمرؓ قبول اسلام سے پہلے شہسواری اور پہلوانی میں مشہور تھے۔ انھوں نے عرب کے مشہور بازار عکاظ میں کئی جنگ جیتے تھے انساب قبائل سے خوب واقف تھے اور قریش کی صفات کا منصب ان کو حاصل تھا۔ کئی بار شام اور عراق کے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کر گئے تھے۔ حجاز میں اگرچہ اس زمانہ میں کتابت کا رواج بہت کم تھا لیکن یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ مدینہ میں آ کر عبرانی زبان بھی سیکھ لی تھی۔

ان کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کو بہت تقویت پہنچی۔ ان کی جرات کی بدولت مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ ہجرت کے بعد آنحضرت کے ساتھ بلا استثنا تمام غزوات میں شریک رہے۔

جب خلیفہ ہوئے تو ان کی قوت تدبیر اور حسن سیاست اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظیم الشان شوکت بخشی۔ بڑی بڑی سلطنتیں اسلامی جھنڈے کے نیچے آگئیں اور یہ دین حق اقوام و ملل پر غالب آ گیا۔

بزرگی اور عظمت کے لحاظ سے حضرت ابو بکر کے بعد ان کا درجہ اہمیت

میں سب سے بلند ہے۔ لیکن ان کا رعب و جلال ان سے زیادہ تھا اور فتح  
 کا دفتر ان ہی کے عہد میں مرتب ہوا۔ کوفہ۔ بصرہ۔ قسطنطینہ موصل اور جزیرہ  
 یہ سب شہرا انھوں نے آباد کرائے۔ سبتہ ہجری انھیں کا مقرر کیا ہوا ہے۔  
 ان کے عہد میں کتاب و سنت کا سمجھنے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہ تھا  
 فقہ کے مجتہد اول یہی ہیں۔ نہایت بلند پایہ خطیب اور مقرر تھے۔ ان کی ذات طہارت  
 اسلامیہ کے لئے نایہ شکر و عزت و باعث رحمت و برکت تھی۔ رضی اللہ عنہ۔

طائف۔ یسفیان بن عبداللہ ثقفی۔ صنعاء۔ یعلیٰ ابن منبہ۔  
 جند۔ عبداللہ بن ربیعہ۔ بصرہ۔ یحییٰ بن ابی العاص۔

عمال عہد عمر

کوفہ۔ مغیرہ بن شعبہ۔ بصرہ۔ ابو موسیٰ اشعری

شام۔ امیر معاویہ۔ مصر۔ عمرو بن عاص

مکہ۔ نافع بن عبداللہ بن خزاعی



# حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

جب صحابہ نے دیکھا کہ اس مہلک زخم سے حضرت عمر کا بچنا مشکل ہے، تو ان سے درخواست کی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں وہ متردد تھے فرمایا کہ میں کسی کو خلیفہ بنا دوں تو یہ بھی بے جا نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو بکر نے جو مجھ سے بہتر تھے ایسا کیا ہے اور اگر نہ بناؤں تو بھی نامناسب نہیں ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت صلعم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔ آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا قائم مقام کر دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کی بات چل کرے تو میں کہہ دیتا کہ میں نے تیرے نبی سے سنا تھا کہ ابو عبیدہ اس امت میں اولین ہیں یا ابو حذیفہ کا غلام سالم ہوتا تو اس کو خلیفہ بنا دیتا اور اللہ سے کہتا میں نے تیرے نبی سے سنا تھا کہ سالم بلہیت کا شیدائی ہے۔

کسی شخص نے کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ اس کے لئے موزوں ہیں فرمایا کہ نہیں، جسے بیوی کو طلاق دینے کا صلیقہ نہ آیا اس کو میں امت کا خلیفہ کیسے بناؤں۔ میرے اوپر یہ امارت خود ایک بار گراں تھی اس لئے اب میں اپنے خلیفان

کے کسی شخص پر اس بوجھ کو ڈالنا پسند نہیں کرتا ایک عمر ہی کے لئے اس کی جوابدہی کیا کم ہے کہ وہ اپنے کنبہ میں سے دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالے۔ میں نے اپنے کو اور اپنے متعلقین کو بہت سی آسائشوں سے محروم رکھا پھر بھی خلافت کی ذمہ داریوں سے اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلا ثواب اور بلا عذاب کے پھوٹ جاؤں تو مجھوں گا کہ بڑا خوش قسمت ہوں۔

یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے۔ لیکن معاملہ چونکہ زیادہ اہم تھا اس لئے دوسرے وقت پھر اس کو پھیلا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کو امت کا امیر بنا دوں جو اس کے بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ لیکن میں نے سوچا کہ زندگی کی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی ذمہ داری میرے ہی اوپر رہے گی۔ اس لئے میری ہمت نہیں بڑتی۔ یہ پھر آدمی ہیں۔ حضرت علی، عثمان، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ان میں سے کسی ایک شخص کو منتخب کر کے امیر بنا لو اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی امداد کرو۔ جو امانت جس کے سپرد ہو وہ اس میں خیانت نہ کرے۔

یہ کہہ کر مذکورہ بالا صحابہ کو بلا یا اور فرمایا کہ جہاں تک میں نے نظر ڈالی تم چھ آدمی میری نگاہ میں امت کے سردار معلوم ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تم لوگوں سے راضی گئے۔ اگر تم راہ

راست پر رہے تو تمہارے لئے کسی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اگر خود تم میں باہم مخالفت ہوئی تو امت میں تفرقہ پڑ جائے گا۔

اس کے بعد ان کے لئے میعاد مقرر کی کہ میری موت کے بعد زیادہ سے زیادہ تین دن کے اندر انتخاب ہو جانا چاہیے۔ مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ جب مجھ کو دفن کر کے فارغ ہو جائیں تو ان چھ آدمیوں کو ایک مکان میں جمع کرنا۔ تاکہ یہ اپنے آپ میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ عبداللہ بن عمر کو رائے دینے کے لئے بلا لینا۔ لیکن اہارت سے ان کو کوئی سروکار نہ ہوگا۔ فیصلہ کثرت رائے سے ہو۔ اگر دونوں طرف رائیں برابر ہوں تو عبداللہ کی رائے لیکر فیصلہ کر دینا۔ اگر ان کی رائے قابل قبول نہ سمجھی جائے تو وہ فریق غالب ہوگا جس کی طرف عبدالرحمن بن عوف ہونگے۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ نہ مانیں اور اپنے دعوے پر اڑے رہیں ان کو قتل کر دینا۔

حضرت عمر کے دفن کے بعد مقداد ان صحابہ کو لیکر مسور بن مخزومہ کے گھر میں آئے اندر بٹھا کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خلیفہ کی وصیت کے مطابق تین دن کے اندر اندر آپ لوگ اپنے آپ میں سے امیر منتخب کر لیں۔ مقوڑی دیر تک سب رگ خاموش بیٹھے رہے پھر حضرت عبدالرحمن نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو خلافت سے دستبردار ہو جائے اسی کو یہ اختیار ہوگا کہ اس جماعت میں سے جس کو افضل سمجھے خلیفہ منتخب کرے۔ یہ نکرار

چپ رہے۔ حضرت عبدالرحمن نے کہا میں دست بردار ہوتا ہوں۔ حضرت عثمان  
 نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اس بات پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہوں  
 کہ تم حسین کو چاہو ہم میں سے امیر بنا دو۔ ان کے بعد اور لوگوں نے اس  
 بات کو منظور کیا۔ لیکن حضرت علیؑ کچھ نہیں بولے۔ عبدالرحمن نے ان سے کہا  
 آپ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس بات کا عہد کرو کہ بلا نفسانیت اور رشتہ داری  
 کے خیال کے محض حق پرستی اور امت کی خیر خواہی پیش نظر رکھ کر انتخاب کرو گے  
 انہوں نے کہا کہ تم اس بات کا پختہ وعدہ کرو کہ حسین کو منتخب کروں گا اس پر  
 رضامند ہو جاؤ گے اور جو نہ مانے گا اس کے مقابلہ میں میری مدد کرو گے میں  
 تم سے عہد کرتا ہوں کہ بلا رورعایت اور بلا خیال کسی قرابت کے محض امت  
 کی خیر خواہی اور حق پرستی کی بنیاد پر انتخاب کروں گا۔ دونوں طرف سے عہد  
 پیمان ہو جانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عبدالرحمن  
 تین دن اور تین رات مدینہ میں صحابہ سے مشورہ کرتے رہے۔ تمام لوگ بالاتفاق  
 حضرت عثمان کے انتخاب کی رائے دیتے تھے۔ صرف چند شخص تھے جو حضرت  
 علیؑ کو چاہتے تھے جس رات کی صبح کو تین دن کی مدت ختم ہونے والی تھی  
 عبدالرحمن نے اس میں پہلے حضرت زبیر کو بلایا اور ان سے کہا کہ امارت نبی عبد  
 مناف کے دونوں بیٹوں (عثمان اور علی) کے حوالہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ علی کے  
 حق میں چھوڑتا ہوں۔ پھر سعد بن ابی وقاص کو طلب کیا ان سے کہا کہ تم اپنا حق میرے



حوالہ کر دو۔ انہوں نے کہا اگر تم خلیفہ ہونا چاہتے ہو تو خوشی سے لیکن اگر عثمان کا انتخاب کرنا چاہتے ہو تو میں علی کو ان کے مقابلہ میں تزیح دیتا ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم خود بیعت لے لو اور ہم کو ان جھگڑوں سے رہائی مل جائے۔ عبدالرحمن نے کہا کہ میں تو خلافت سے دست بردار ہو چکا ہوں۔ حضرت طلحہ ان دنوں مدینہ میں نہیں تھے۔ اس لئے ان کی رائے لینے کا موقع نہیں مل سکا۔

اس کے بعد حضرت علی کو بلا کر دریا تک ان سے مشورہ کرتے رہے جب وہ چلے گئے تو حضرت عثمان کو بلایا اور ان سے صبح تک باتیں کیں نماز کے بعد مہاجرین انصار اور دیگر اہل رائے کو مسجد میں جمع کیا اور کہا کہ یارو ابھار کے لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقامات کو روانہ ہونے سے قبل ان کو معلوم ہو جائے کہ امت کا امیر کون قرار پایا ہے۔

اس پر مسجد میں چاروں طرف سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر کرنی شروع کیں۔ حضرت سعد نے کہا کہ عبدالرحمن معاملہ کو جلد طے کرو کہیں فتنہ نہ واقع ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اچھی طرح غور کیا اور جہاں تک میری طاقت میں تھا ہر طبقہ کے لوگوں سے مشورہ لیا۔ میرے فیصلہ سے اب کسی کو انکار کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان کو بلایا اور کہا کہ اللہ کو درمیان میں دے کر عہد کرو کہ کتاب، سنت اور شیخین کے طریقے پر

چلو گئے۔ انہوں نے جب اقرار کر لیا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے بعد سب لوگ بیعت کرنے لگے۔

حضرت علیؓ اور دیگر لوگوں سے باہر نکل آئے لیکن پھر پلٹے اور صفیں چیرتے ہوئے جا کر حضرت عثمانؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

حضرت عثمانؓ کی خلافت کی ابتدا یکم محرم ۳۲ھ مطابق ۶۴۴ء سے ہوئی۔

**ترجمہ عثمان** | حضرت عثمان بن امیہ سے ہیں ان کا سلسلہ نسب یہ ہے  
عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف  
ان کی والدہ اروس بنت کنزہ بن ربیعہ بن عبد شمس تھیں۔ انہیں حضرت صلعم کی ولادت  
کے پانچ سال بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی۔

یہ ساتویں اولین میں سے ہیں۔ آغاز بعثت ہی میں حضرت ابو بکر کے  
سمجھانے سے اسلام لائے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی بیٹی رقیہ کے ساتھ کر دیا۔ لیکن  
مکہ نے جب اذیت پہنچانی شروع کی تو حضرت عثمانؓ معہ رقیہ کے ملک  
حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔

یہ اسلام میں سب سے پہلے ہاجرہ ہیں۔ درمیان میں پھر مکہ آئے۔  
اور جب مدینہ جانے کی اجازت ملی تو وہاں چلے گئے دو دن ہجرت میں رہے۔

تمام غزوات میں بجز بدر کے آنحضرت کے ساتھ رہے۔ بدر کے موقع پر چونکہ حضرت رقیہؓ سخت بیمار تھیں اس لئے سرور عالمؐ ان کی تیمارداری کے لئے ان کو چھوڑ گئے تھے۔ چنانچہ فتح بدر کے بعد رقیہؓ کا انتقال ہو گیا۔ آنحضرت نے بدر کے ہال غنیمت میں سے حضرت عثمانؓ کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ اور شرکائے جنگ میں ان کو قرار دیا۔

رقیہؓ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دیا اس لئے ذی النورین ان کا لقب ہوا۔ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر یہ قریش کی طرف سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب یہ خبر شائع ہوئی کہ کفار نے ان کو قتل کر ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جان دینے کی بیعت لی اور خود اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا اقرار دے کر بائیں ہاتھ پر مارا اور ان کی طرف سے بیعت کی۔

جیش العسرة جو تبوک کے لئے تیار کی گئی اس کا سامان انھیں کی کوشش مدد اور فیاضی سے ہوا۔ انھوں نے اس میں بے دریغ اپنا مال صرف کیا۔ ہمزومہ جو مدینہ کا ایک مشہور کنواں تھا اور جس کے بارے میں آنحضرت نے فرمایا تھا کہ جو اس کو مسلمانوں کے لئے خریدے وہ جنتی ہوگا۔ اس کو انھوں نے خرید کر وقف کر دیا۔

آنحضرت کے زمانہ میں کاتب وحی اور حضرت عمرؓ اور ابو بکرؓ کے زمانہ میں

معمت اور امین رہے وہ لوگ بڑے بڑے امور میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔

**خطبہ خلافت** بیعت ہو جانے کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے۔ اُس وقت مال و متاع دنیوی کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کی

حالت میں جو تغیر آچکا تھا اس سے باز رکھنے کے لئے عمل صراح اور ثوابِ آخرت کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ دنیائے فانی کے چند روزہ جاہ و جلال پر مائل نہ ہو، نہ اپنے شیطان کے پھندے سے بچو اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں گزارو۔

پھر امرار فوج اور والیان صوبجات کے نام ایک برس اسلحہ جاری کیا کہ وہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کریں اور جس طریقہ سے خلیفہ سابق کے عہد سے خدمات انجام دیتے چلے آتے ہیں اسی پر قائم رہیں امانت داری اور وفار عہد کا لحاظ رکھیں۔

**پہلا مقدمہ** حضرت عمر کے زخمی ہونے کے بعد ہی یہ خیر شایع ہوئی کہ اکیلا فیروز ہی ان کا قاتل نہیں ہے بلکہ اس میں ایک

جماعت شریک ہے کیونکہ عبدالرحمن بن ابوبکر نے بیان کیا کہ شام کے وقت میں نے دیکھا تھا کہ ہرمزان اور حفصینہ اور فیروز تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے آہستہ آہستہ کوئی مشورہ کر رہے تھے جب میں اچانک اس کے قریب پہنچ گیا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے ان میں سے کسی کے پاس



ایک خنجر گرا جس کے دونوں طرف دھار تھی۔  
 جب فیروز کا خنجر دیکھا گیا تو وہ ٹھیک اسی قسم کا تھا جیسا عبد الرحمن نے  
 بتایا تھا۔ چنانچہ جب اس زخم سے حضرت عمر انتقال کر گئے تو عبید اللہ بن عمر  
 نے غصہ میں جا کر ہرمزان کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد حنینہ کی طرف چلے۔ یہ  
 حیرہ کار ہنہ والا ایک عیسائی غلام تھا جس کو سعد بن ابی وقاص مدینہ میں  
 لائے تھے کہ بچوں کو کتابت سکھائے۔

حضرت صہیب کو جو اس وقت عارضی طور پر خلافت کا کام کرتے تھے  
 جب عبید اللہ کے اس فعل کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے ان کو گرفتار کر کے  
 تلوار ان کے ہاتھ سے پھین لی اور اس وقت تک کے لئے قید کر دیا جب تک  
 کہ کوئی خلیفہ منتخب نہ ہو۔

بیعت خلافت کے بعد حضرت عثمان کے سامنے سب سے پہلے  
 یہی معاملہ پیش ہوا۔ انھوں نے ہاجرین اور انصار سے پوچھا کہ اس میں کیا  
 کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قصاص لینا چاہیے لیکن دوسرے  
 ہاجرین نے کہا کہ کل عمر کا انتقال ہوا اور آج ان کا بیٹا قتل کیا جائے عمرو  
 بن عاص نے کہا کہ اسے امیر المؤمنین! اس معاملہ سے آپ کو کیا سروکار یہ  
 واقعہ آپ کی خلافت سے قبل کا ہے۔ حضرت عثمان نے اس میں خود ہرمزان  
 کے خون کی دیت اپنے ذمہ لی اور اس معاملہ کو طے کر دیا لوگ اس فیصلہ سے خوش ہوئے۔

## فتوحات

کو قہ میں چالیس ہزار فوج رہتی تھی اور آذربے جان کی حفاظت

اسی کے ذمہ تھی۔ چھ ہزار سپاہی آذربے جان اور چار ہزار لے

کی حدود پر متعین رہتے تھے جو یہاں سے باری باری بھیجے جاتے تھے۔

ولید بن عقبہ عامل کو قہ کے زمانہ میں اہل آذربے جان نے بغاوت کی وہاں

فوج کشی کی گئی۔ آخر کار وہ پھر اپنی شرائط کو پورا کرنے پر رضامند ہو گئے۔

آرمینیا میں بھی وہاں کے باشندوں نے سازش کر کے سرکشی کی سلمان

بن ربیعہ باہلی فوج کے ساتھ اس طرف بھیجے گئے۔ انھوں نے قنہ کو دبا دیا۔

سعید بن عاص ایک لشکر حیران لے کر طبرستان میں گئے۔ اس میں امام حسن

حسین، عبادلہ اربعہ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن

عمر و بن عاص اور عبداللہ بن عباس نیز حضرت حذیفہ بن یمان وغیرمعموم رضی

اللہ عنہم بھی شریک تھے۔ متعدد سخت معرکے ہوئے۔ اہل طبرستان نے

ہزیمت دکھا کر مصالحت کی۔

۳۳ھ میں حضرت عبدالرحمن بن ربیعہ باہلی نے بحر خزر کے سواحل

پر فوج کشی کی اور فتح کرتے ہوئے مقام دربند تک پہنچ گئے۔ وہاں غنیم

لے بہت بڑی جمعیت فراہم کر کے مقابلہ کیا۔ عبدالرحمن شہید ہو گئے۔ اور

اسلامی فوج نے شکست کھائی۔ پھر عبدالرحمن کے بھائی سلمان بن ربیعہ

اس سرحد پر متعین ہوئے۔ انھوں نے دشمنوں کو روکا۔

فارس۔ خراسان اور حدود سندھ تک کافر جی مرکزہ بصرہ تھا۔ عبدالرحمن بن عامر والی بصرہ کے عہد میں اہل فارس نے وہاں کے امیر عبید اللہ بن معمر کو قتل کر ڈالا اور بغاوت کر دی۔ ابن عامر خود فوج لے کر اس طرف بڑھے اور ان کی سخت گونہالی کی۔ انھیں کی امارت میں ایران کا آخری بادشاہ یزدگرد مارا مارا گیا۔ اس کی موت سے ساسانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔

۳۳۶ء میں خراسان میں بغاوت ہوئی۔ ابن عامر نے فوج کشی کی قہتان والوں نے امان مانگ لی پھر وہ نیشاپور کی طرف بڑھے۔ ان لوگوں نے بھی صلح کی وہاں سے حنف بن قیس کو طخارستان کی طرف روانہ کیا۔ انھوں نے مرد و دو تک فتح کیا۔ اس کے بعد بلخ پر قابض ہوئے۔ پھر خوارزم کی طرف بڑھے مگر وہاں سے محاصرہ اٹھا کر واپس چلے آئے۔

ابن عامر نے ایک دوسرے سردار عبدالرحمن بن سمرہ کو سیستان کی طرف بھیجا۔ انھوں نے کابل اور زابلستان کو فتح کیا۔ ابن عامر ان فتوحات کا شکریہ ادا کرنے کے لئے بیت اللہ کو روانہ ہوئے۔

شام میں حضرت عثمان نے امیر معاویہ کو پوز سے صوبہ کا والی کر دیا۔ انھوں نے رومیوں پر فتوحات حاصل کیں۔ راستہ میں ان کے جس قدر قلعے ملے۔ ان میں اپنی فوجیں رکھ دیں۔ دربار خلافت کے حکم سے حبیب بن مسلمہ کو آرمینیا کی طرف فوج دے کر روانہ کیا جنہوں نے تفلیس تک فتح کیا۔

امیر معاویہ کا چونکہ زیادہ تر مقابلہ رومیوں کے ساتھ رہتا تھا جن کے پاس جنگی کشتیاں تھیں۔ اس لئے وہ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ ہم بھی اپنی بحری طاقت تیار کریں تاکہ سمندر میں ان کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو اپنے سواحل پر فوجیں نہ اُتارنے دیں۔ لیکن حضرت عمر بھری جنگ کو مسلمانوں کے لئے ایک قسم کی تعزیر سمجھتے تھے۔ اس لئے ان کی درخواست نہیں منظور کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے عہد میں ان کو کشتیوں کے بنانے کی اجازت ملی لیکن اس شرط پر کہ مسلمان حیرا یا قرعہ اندازی کر کے بحری فوج میں نہ لئے جائیں۔ صرف وہی لوگ بھرتی کئے جائیں جو خوشی سے اس میں آنا چاہیں۔

امیر معاویہ نے جنگی کشتیاں تیار کرائیں۔ اور ۲۸ھ میں پہلا بحری حملہ جزیرہ قبرص پر کیا۔ اس میں حضرت عبادہ بن صامت وغیرہ بہت سے صحابہ رسول بھی مدینہ سے آکر شامل ہوئے۔ عبد اللہ بن سعد سپہ سالار مصر بھی مدد کے لئے خود ساتھ گئے۔ اہل قبرص نے صلح کی۔ بشرط یہ تھے کہ وہ ہر سال سات ہزار دینار مسلمانوں کو ادا کرتے رہیں گے۔ اور اسی قدر رقم جو وہ رومیوں کو سالانہ دیتے ہیں مسلمان اس میں مزاحمت نہ کریں گے۔ اگر کوئی یہاں حملہ آور ہو تو مسلمان پر مدافعت لازم نہ ہوگی۔ وہی جس وقت اسلامی ملک پر حملہ کا سامان کریں گے تو اہل قبرص مسلمانوں کو



اطلاع دیں گے اور اسلامی فوج اگر یہاں سے گزرنا چاہے گی تو اس کو گزرنے کا حق ہوگا۔

امیر معاویہ نے فوج کے دو حصے کئے تھے شامیہ اور صائفہ یعنی سرمائی و گرمائی۔ ایک حصہ جاڑے کے موسم میں جنگ میں مصروف رہتا تھا دوسرا گرمی میں۔ عبداللہ بن قیس حارثی امیر البحر تھے۔ انھوں نے رومیوں کے ساتھ متعدد لڑائیاں کیں لیکن کبھی ان کے بیڑے کا کوئی آدمی غرق نہیں ہوا۔

مصر میں اسکندریہ کے رومیوں کے ساتھ بعض قبضی سردار مل گئے انھوں نے ہرقل سے خط و کتابت کر کے امداد طلب کی۔ اس نے ایک عظیم الشان بیڑہ روانہ کیا اور اسکندریہ میں فوجیں اتار دیں۔ عمرو بن عاص والی مصر کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے پہنچ کر رومیوں کو سخت شکست دی۔ اور اسکندریہ پر قبضہ کر کے اس کی فہیل کو توڑ دیا۔

۲۵ء میں عبداللہ بن سعد افریقیہ کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے وہاں رومیوں کو مغلوب کر لیا۔ تو خمس غنیمت کا پانچواں حصہ تم کو انعام دیا جائے گا۔ انھوں نے خلیفہ سے امداد طلب کی۔ بمشورہ صحابہ سلسلہ میں امداد روانہ کی گئی جس میں عباد اللہ الرعبی اور امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہم بھی تھے جب برقہ سے آگے بڑھے تو قیصر کی طرف سے شہر یعقوبہ کا والی جریر ایک لاکھ بیس ہزار فوج لیکر مقابلہ

میں آیا اور لڑائی ہونے لگی۔ عبداللہ بن زبیر نے ابن سعد کو میدان میں نہ دیکھا  
 پوچھا کہ کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جرہیر نے اعلان کر دیا ہے کہ جو شخص ابن سعد  
 کا سر کاٹ لائے گا اس کو ایک لاکھ دینار دوں گا اور اسی کے ساتھ اپنی بیٹی بیام  
 دوں گا۔ اس وجہ سے وہ فوج کے پیچھے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہماری  
 طرف سے اعلان کر دو کہ جو شخص جرہیر کو قتل کرے گا ہم اس کو ایک لاکھ دینار  
 دیں گے اور اس کی بیٹی سے اس کی شادی کر دیں گے نیز یہ کہ اس کے بجائے  
 اس کو عقیقہ کا والی بنا دیں گے۔

چند روز تک لڑائی ہوتی رہی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جی توڑ کر حملہ کیا  
 اور غالب آگئے۔ جرہیر کو عبداللہ بن زبیر نے قتل کیا۔ اس کی بیٹی انھیں کو ملی۔  
 اس فتح میں بہت مال غنیمت ہاتھ آیا۔ عبداللہ بن سعد کو خمس غنیمت کا پانچواں  
 حصہ جو دیا گیا تھا وہ ایک لاکھ دینار تھا۔

پھر وہاں سے فوجی دستے مختلف اطراف میں بھیجے گئے۔

ابن سعد کے عہد میں قیصر نے چھ سو کشتیوں کا ایک بیڑا لیکر مصر پر حملہ کیا  
 شام سے امیر معاویہ اپنی بحری فوج لے کر ابن سعد کی امداد کو پہنچ گئے۔ جب  
 رومیوں سے سمندر میں مقابلہ ہوا تو اسلامی فوج نے اپنی کشتیوں کو ایک دوسرے  
 کے ساتھ بندھ دیا اور سطح بحر پر میدان کی طرح جنگ کی۔ رومیوں نے سخت  
 شکست کھائی۔ ان کی بہت سی کشتیاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔

اس طرح پر اسلامی بیڑہ کی طاقت بڑھ گئی اور رومیوں کے بحری حملوں اور  
ناخت و تاراج سے شام و افریقہ کے مواعیل محفوظ ہو گئے۔

## فِتنۃ واخلیہ

حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں اعیان قریش کو مدینہ میں روک رکھا تھا  
اس کو کہیں دوسری جگہ نہیں جانے دیتے تھے۔ کبھی بان میں سے اگر کسی کو کوئی  
ضرورت پیش آجاتی تو ایک مدت معینہ کی اجازت لے کر جاتا اور پھر واپس آ  
جانا اگر کوئی کسی جنگ میں بھی شریک ہوتا چاہتا تو اس کو اجازت نہ دیتے اور  
فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جن جہادوں میں تم شریک  
ہو چکے ہو ان کا ثواب تمہارے لئے کافی ہے۔

ہر چند کہ لوگ اس کو اپنے حق میں ایک سختی سمجھتے تھے اور حضرت عمر کو  
تنگ کرتے تھے۔ لیکن وہ ان کو مدینہ سے نکلنے نہیں دیتے تھے اور فرماتے  
تھے کہ سب سے زیادہ اس امت کے لئے جس بات سے ڈرنا ہوں وہ یہ  
ہے کہ تم لوگ جب یہاں سے باہر نکلو گے اور شہروں میں متفرق ہو جاؤ گے  
تو تمہاری رالیوں میں اتفاق نہیں ہے گا اور تمہارے اختلاف سے ساری امت میں تفرقہ پڑ جائیگا  
حضرت عثمان نے اپنے عہد میں اس رکاوٹ کو اٹھا دیا اور رومیوں کو  
جا بجا دیار و امصار میں پھیل گئے۔

قبول کی خلافت کی وجہ سے یہ لوگ بمنزلہ شاہی خاندان کے ارکان کے سمجھے جاتے تھے۔ اس وجہ سے جہاں جہاں گئے ان کی عزت اور حرمت ہوتی اور ایک سال کا زمانہ بھی نہ گزرتے پایا کہ مختلف شہروں میں ان کی بڑی بڑی ملکیتیں اور جائیدادیں ہو گئیں۔ لوگ ان کے پاس جمع ہونے لگے۔ اور چونکہ استحقاق خلافت کے شرائط ان میں مجتمع تھے۔ اس لئے ان کے مصائب وقوع رکھنے لگے کہ ممکن ہے کہ ایک دن یہ خلیفہ ہو جائیں۔ یہ تمناؤں و دلوں سے زمانوں تک آنے لگیں اور ان کی وجہ سے خیالات و آواز میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔

اس موقع پر حضرت عمر کی دورانہی کی تعریف کرنی پڑتی ہے کہ انہوں نے انہیں تاج کو پیش نظر رکھ کر ان کو سوار کو اپنے پاس روک رکھا تھا اور کہیں جانے نہیں دیتے تھے تاکہ ان میں باہمی اختلاف کے اسباب نہ پیدا ہو سکیں۔ چنانچہ ان کے آخر عہد تک وہ لوگ متفق اور متحد اور شفاق و افتراق سے نا آشنا تھے اور جب روسا باہم متفق رہیں تو امت میں اختلاف ہو نہیں سکتا۔ عہد عثمان میں اعیان قریش کے متفرق ہو جانے سے ان میں وہ اتحاد جو پہلے تھا باقی رہا۔ علاوہ بریں خلیفہ کی نرم مزاجی کی وجہ سے شورش انگیز لوگوں نے غوغا و عام شروع کیا۔ چونکہ اس شورش میں کوفہ، بصرہ اور مصر تینوں مقامات کے لوگ شریک تھے اس وجہ سے ہر ایک جگہ کی مختصر کیفیت



لکھنی ضروری ہے۔

**کوفہ** | حضرت عثمان نے کوفہ کا امیر سعد بن ابی وقاص کو مقرر کیا۔ خراج کی تحصیل پر حضرت عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی تھے۔ حضرت سعد نے ان سے کوئی رقم ایک مدت معینہ کے لئے قرض لی۔ جب وہ مدت گزری گئی تو عبداللہ بن مسعود نے تقاضا کیا۔ سعد بروقت ادا نہ کر سکے۔ دونوں میں باہم کچھ گرم گفتگو ہوئی۔ بعض لوگ سعد کے طرف دار ہو گئے اور بعض ابن مسعود کے۔ رد و قدح کے بعد ابن مسعود واپس آئے لیکن دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف سے مکدر ہو گئے۔

حضرت عثمان کو حیب اس کی اطلاع ہوئی تو انھیں نے دونوں پر یہ عتاب فرمایا اور سعد کو معزول کر کے ان کی بجائے ولید بن عقبہ کو بھیجا۔ ولید کا بہتاؤ اچھا تھا اور لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ ایک دن یہ واقعہ ہوا کہ چند اوباش کسی شخص کے گھر میں نقب لگا کر گھسے اور اس کو مار ڈالا وہاں ایک ہنگامہ ہوا۔ سرکاری سپاہی موقع پر پہنچ گئے! انھوں نے مجرموں کو پکڑ لیا۔ وہ قصاص میں قتل کئے گئے۔ اب ان کے رشتہ داروں نے موقع ڈھونڈنا شروع کیا کہ کسی طرح ولید کی شکایت خلیفہ کے سامنے کریں۔

ولید کی محفل میں رات کے وقت جو لوگ جمع ہوتے تھے ان میں ابوہریرہ طائی بھی تھا جو پہلے علیہ السلام تھا۔ پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں یہ

شہرت تھی کہ شراب خورد ہے۔ ولید کے ان دشمنوں نے یہ خبر اڑائی کہ وہ بھی ابو زبید کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں۔ ابن مسعود سے بھی جا کر کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص ہم سے چھپا کر کوئی کام کرے ہم کو اس کے تجسس کی کیا غرض ہے۔ ولید نے جب یہ سنا تو ابن مسعود سے کہا کہ ان فتنہ پردازوں کو اس قسم کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا جیسا آپ نے دیا۔ میں کو لٹنا کام چھپا کر کرتا ہوں۔ اس جواب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بھی ان کی باتوں کی وجہ سے شک پیدا ہو گیا۔ اس پر ولید اور ابن مسعود میں سخت کلامی ہوئی اور دونوں میں رنجش پیدا ہو گئی۔

ان مخالفین نے خلیفہ کے پاس جا کر ولید پر شراب خواری کا الزام لگایا اور دو شخصوں کو جن کو ولید نے ان کی بدلیا تھی کی وجہ سے ملازمت سے معزول کر دیا تھا شہادت میں پیش کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ولید کی محفل میں شریک تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اس نے قے کی اور اس میں شراب نکلی۔ ولید کو فہ سے بلائے گئے۔ ان پر حد جاری کی گئی اور ان کے بجائے سعید بن عاص کو فہ کے امیر مقرر ہوئے۔

سعید نے کو فہ کی حالت نہایت خراب دیکھی۔ دو بار خلافت میں مکہ بھیجا کہ یہاں کی مخلوق شورش پسند ہے۔

ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ سعید کی محفل میں کسی نے حضرت طلحہ کی

فیاضی کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا کہ جس کے پاس نشایح جیسی زر خیز ملکیت ہو۔ اس کو فیاض ہونا ہی چاہیے۔ اگر میرے پاس بھی ایسا کوئی قطعہ زمین کا ہوتا تو میں تم کو خوش کر دیتا۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا کہ سوا حل قرات کا علاقہ جو آل کسریٰ کی جاگیر میں تھا اس کو آپ لے لیجئے۔ یہ منکر کوفہ کے چند آدمی بول اٹھے کہ اللہ تجھے غارت کرے ہماری زمین تو امیر کو دینا چاہتا ہے۔ مالک اشتر نخعی اور امیر بن ضبابی تو اس قدر برہم ہو گئے کہ اٹھ کر اس نوجوان کو پیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگ بھی طرف داری کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اگر خود معید نے بیچ میں پڑ کر اس جھگڑے کو نہ روک دیا ہوتا تو سخت بلوہ ہو جاتا۔

اس کے بعد معید نے ان لوگوں کو اپنی محفل میں آنے سے روک دیا۔ اب ان کا کام بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ معید کو بدنام کر کے لوگوں کو ان کی طرف سے بھڑکانیں۔ ہر روز ایک نہ ایک قسم کا فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ خود مشرف کوفہ نے خلیفہ کے پاس درخواست بھیجی کہ یہ فتنہ پرواز یہاں سے نکال دئے جائیں۔ وہاں سے حکم آیا کہ ان کو شام میں بھیج دو تاکہ امیر معاویہ کی نگرانی میں رہیں۔ چنانچہ ان شورش انگیزوں کے سرغنہ مالک بن حارث اشتر نخعی ثابت بن قیس نخعی کلیل بن زیاد نخعی زید بن صوحان عبیدی جنید بن زہیر غامدی جنید بن کعب ازدی عمرو بن عبد عمرو بن الحنف الخزامی امیر معاویہ کے پاس بھیجے گئے۔ وہاں بھڑکے دن تک

رہے۔ انھوں نے ان کو سمجھایا بھی اور دھمکایا بھی لیکن ان کے سروں میں شمشیر کا سودا بھرا تھا۔ راہِ راست پر نہ آئے۔ امیر معاویہ نے خلیفہ کو خط لکھا کہ مجھ سے ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ خلیفہ نے لکھا کہ حمص میں عبدالرحمن بن خالد کے پاس بھیجو۔ عبدالرحمن نے ان لوگوں کی سخت گوشمالی کی۔ آخر انھوں نے توبہ اور ندامت کا اظہار کیا۔ اس لئے خلیفہ نے ان کو ذوالپس جانے کی اجازت دے دی۔ کوفہ میں جب آئے تو پھر وہی فتنہ انگیزی شروع کی اور حضرت عثمان اور ان کے عمل کی برائیاں کرنے لگے۔ یہاں تک کہ فتنہ بہت بڑھ گیا۔ سعید بن عاص خود مدینہ گئے تاکہ خلیفہ کو یہاں کی حالت سے مطلع کریں۔ جب واپس آنے لگے تو یہ لوگ متفق ہو کر ایک جماعت کثیر اپنے ساتھ لےئے ہوئے کوفہ سے نکلے کہ اب ہم سعید کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے رفعِ شر کے خیال سے سعید کو بلا لیا اور ابو موسیٰ اشعری کو وہاں کا والی بنا کر بھیج دیا لیکن وہ ان کی فتنہ پر دازی کا انسداد نہیں کر سکے بلکہ دن بدن ان کی طاقت اور جماعت بڑھتی جاتی تھی اور حکومت کا نفوذ اور اثر کم ہوتا جاتا تھا۔

یہاں کے والی عبداللہ بن عامر تھے جنہوں نے ایران کی فتوحات میں بڑے بڑے کام انجام دئے تھے۔ ان کے عہد میں بصرہ میں ایک شخص حکیم بن جبلة تھا جو غارت گری کیا کرتا تھا۔ اور بھیس



کیا کہ ہر مقام سے کچھ کچھ لوگ نکل کر مدینہ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ ہم خلیفہ سے  
اور سلطنت کے متعلق چند باتیں دریافت کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ تاکہ  
لوگوں میں یہ شہرت ہو جائے کہ مسلمانوں کی ایک حق جو اور خیر خواہ جماعت  
خلیفہ کی غلطیوں کا اس سے مواخذہ کرنے جا رہی ہے۔ اس قرارداد کے  
مطابق بصرہ، کوفہ اور مصر تینوں مقامات سے ان کا ایک ایک وفد روانہ ہوا  
اور مدینہ کے متصل پہنچ کر سب مل گئے اور شہر کے باہر ٹھہر گئے۔

حضرت عثمان کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے دو آدمیوں کو  
بھیجا کہ معلوم کریں کہ کس غرض سے یہ وفد آئے ہیں۔ انہوں نے واپس جا کر  
اطلاع دی کہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی غلطیاں ظاہر کر کے اصرار  
کریں کہ خلافت سے دست کش ہو جائیں۔ ورنہ آپ کو قتل کر ڈالیں۔

حضرت عثمان نے یہ سنا کہ ہنسے ان لوگوں کو بلایا اور مہاجرین و انصار کو جمع کیا  
پھر ان کی ساری شکایتیں سنیں۔ اس کے بعد صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان کے  
بارہ میں کیا کرتا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو پکڑ کر قتل کر دیجئے فرمایا  
کہ نہیں۔ جب تک کسی سے کفر ظاہر نہ ہو یا حد شرعی نہ واجب ہو اس وقت  
تک ان کو سزا دینا قرین انصاف نہیں۔

اس کے بعد ان کی ایک ایک شکایت کا مفصل جواب دینا شروع  
کیا۔ فرمایا۔

۷ (۱) یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے منامیں پوری نماز پڑھی اور قصر نہیں کیا حالانکہ میں نے آنحضرت سے سنا ہے کہ جب کسی مسافر کے اہل و عیال کسی مقام پر ہوں تو وہ مقیم ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ مہاجرین اور انصار نے کہا کہ صحیح ہے۔

۷ (۲) یہ کہتے ہیں کہ تم نے چراگاہ کو مخصوص کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ میں نے کون سی چراگاہ مخصوص کر دی۔ مدینہ میں صرف ایک چراگاہ بیت المال کے جانوروں کے لئے ہے جو میری خلافت سے قبل مخصوص کر دی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب میں خلیفہ ہوا تھا اس وقت مجھ سے زیادہ مدینہ میں نہ کسی کے پاس اونٹ تھے نہ بکریاں تھیں۔ آج میرے پاس صرف دو اونٹ ہیں جن کو میں نے حج کی سواری کے لئے رکھ چھوڑا ہے اور جو چرائی پر نہیں جاتے۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ درست ہے۔

۷ (۳) یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کئی کتابوں کا مجموعہ تھا۔ تم نے صرف ایک کتاب رکھی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن صرف ایک کتاب ہے اور اکیلے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں کون گھٹا بڑھا سکتا ہے اس کی کتابت میں نے نہیں کی ہے بلکہ معتمد صحابہ کی ایک جماعت نے کی ہے کیا اس میں کوئی بات غلط ہے آواز آئی کہ نہیں ہرگز نہیں؟

۷ (۴) یہ کہتے ہیں کہ حکیم بن العاص کو طائف سے تم نے کیوں بلایا؟

کہتا ہوں کہ حکیم کو مکہ سے آنحضرت نے نکال کر طائف میں بھیجا یا تھا۔ پھر اپنی زندگی ہی میں ان کو طائف سے مکہ میں بلا لیا کیا یہ میرا قول کھٹیک نہیں ہے؟ ہر طرف سے جواب ملا کہ کھٹیک ہے۔

(۵) یہ کہتے ہیں کہ تم نے نوجوان شخص (عبداللہ بن عامر) کو والی بنا دیا ہے۔ حالانکہ میں نے لیاقت، عقل و دنیاداری اور ایمانداری کو جانچ کر ان کو امیر مقرر کیا ہے۔ محض نوجوان ہونا کوئی عیب نہیں۔ مجھ سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ اسامہ کو جن کی عمر صرف ۷ سال کی تھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا کیا میں بیجا کہتا ہوں۔ متفقہ طور پر لوگ بول اٹھے کہ نہیں آپ نے بجا فرمایا۔

(۶) یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کو سارا مال غنیمت بخش دیا۔ حالانکہ میں نے عبداللہ بن سعد کو خمس غنیمت میں سے صرف پانچواں حصہ دیا تھا۔ مجھ سے پہلے حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانوں میں بھی ایسا ہوا ہے باوجود اس کے جب مجھے علم ہوا کہ فوج نے اس کو ناپسند کیا تو میں نے وہ رقم ابن مسعود سے واپس لے لی۔ یہ واقعہ نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ ہے۔

(۷) یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے اقرباء کو امارتیں دے رکھی ہیں۔ میرے نزدیک یہ کوئی عیب نہیں بشرطیکہ ان میں صلاحیت ہو اس لئے کہ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں تاہم اگر لوگ اس امر کو ناپسند کرتے ہیں تو ان کی بجائے دوسروں کو مقرر کرنے کے لئے تیار ہوں جو ان سے زیادہ خبیث کے ساتھ

کام کر سکیں۔

(۸) یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل خاندان کی محبت رکھتا ہوں اور ان کو دیتا ہوں دنیا میں کون کہہ سکتا ہے کہ اپنے کنبہ والوں کی محبت رکھنا گناہ ہے۔ جب تک کہ اس سے کسی کا حق ضائع اور کسی پر ظلم نہ ہوتا ہو۔ میں ان کو عطا بھی دیتا ہوں لیکن اپنے خاص مال میں سے عہدہ رسالت سے میں ان کے ساتھ اس قسم کے سلوک کرتا رہا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بیت المقدس میں سے آج تک میں نے خود اپنے خرچ کے لئے ایک حبہ نہیں لیا۔ اپنے ذاتی مال میں بھی مجھ کو تصرف کا اختیار نہیں ہے کہ اپنے کنبہ کے حسن و خفا کو چاہوں دوں؟

اس وقت ان دونوں کے ساتھ اور کچھ نہیں کیا۔ صرف جواب دینے پر ان کی اور ان کو رخصت کر دیا۔

لیکن ان لوگوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان اعتراضات کے جوابات تسلی حاصل کریں بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ کے خلاف ملک میں شورش پھیلائیں۔

مدینہ سے واپس آکر انھوں نے پھر باہم مراسلت شروع کی اور آپس میں لڑنے لگے۔ یہاں تک کہ ان کے درمیان سے پھر ایک ایک جماعت یہ ظاہر کر کے کہ ہم آپس میں لڑنے سے باز رہیں اور اپنے اپنے مال کو تمام بنی امیہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ اپنے بیٹوں کا حصہ بھی سب کے برابر ہی لکھا تھا۔



میں عمرہ کے لئے جاتے ہیں اور سب مدینہ میں آکر جمع ہو جائیں۔ چنانچہ مصر سے ایک ہزار آدمی روانہ ہوئے جن کا سربراہ فقی بن حریب تھا۔ عبداللہ بن سبا بھی ساتھ تھا۔ ان لوگوں کو یہ جرات نہ ہو سکی کہ مدینہ کے نام سے نکلے۔ بلکہ حسب قرار داؤد کی زیارت کا قصد مشہور کر کے روانہ ہوئے۔

کوفہ سے بھی اسی قدر آدمی چلے۔ ان کا امیر عمرو بن اہم تھا اور بصرہ والوں کی تعداد بھی اسی قدر تھی اس کا سرغنہ حرقوص بن زبیر سعدی تھا۔ ہر سر مقام کے لوگ ایک ہی بار نہیں نکلے بلکہ چار چار مختلف قافلے بنا کر نکلے۔ پھر آگے بڑھ کر ایک ساتھ ہو گئے اور مدینہ کے متصل پہنچ کر تینوں مقامات کے لوگ مل گئے۔

اس امر میں سب متفق تھے کہ خلیفہ وقت کو قتل کر دیں لیکن ان کے بعد کس کو خلیفہ بنائیں۔ اس میں اختلاف تھا۔ بصرہ کے چند لوگ حضرت طلحہ کے خواہاں تھے اور بعض اہل کوفہ حضرت زبیر کے۔ لیکن بقیہ لوگ اور خاص کر اہل مصر عبداللہ بن سبا کی تعلیم اور محمد بن ابوبکر کے اثر سے جو حضرت علی کریم اللہ وجہ کے ریب تھے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔

مدینہ سے تین منزل کے فاصلہ پر ٹھہر گئے اور دو آدمیوں کو بھیجا کہ مدینہ کی حالت دیکھ آئیں کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ان کے آنے کی اطلاع وہاں پہنچ گئی ہو اور اہل مدینہ ان کے مقابلہ کے لئے تیار نہ ہو گئے ہوں۔

ان لوگوں نے جب مدینہ کی حالت دیکھ لی کہ یہاں مکوں سے توجہ  
 علی۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم سے ملے اور کہا کہ ہم اس لئے آئے  
 آپ کو خلیفہ کے پاس لے چلیں تاکہ ہم ان سے درخواست کریں کہ وہ  
 والی کو جس کے ظلم سے ہم تنگ آگئے ہیں واپس بلا لیں لیکن ان سب لوگوں  
 نے انکار کر دیا۔

وہ دونوں اپنی جماعت میں واپس آگئے اور مدینہ کے حالات بیان  
 دوبارہ یمنیوں مقامات کے لوگ زیادہ تعداد میں آئے۔ اہل مصر حضرت  
 کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ جب حضرت عثمان ہماری شکایت  
 نہیں سنتے تو بہتر یہ ہے کہ خلافت کی باگ آپ اپنے ہاتھ میں لیں انھوں  
 نے قطعی انکار کیا۔ پھر حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس گئے وہاں سے بھی اسی  
 جواب ملا۔ یہ لوگ پھر اپنی فرودگاہ پر واپس چلے آئے اس کے بعد متفقہ طور  
 یہ ساری جماعت مدینہ کے پاس پہنچ گئی اور چاروں طرف سے مکہ کے  
 لگاتے ہوئے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنی تلو  
 میان میں رکھے گا اس کو امان ہے۔

حضرت علیؓ ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں سے جا  
 کے بعد پھر کیوں واپس آگئے؟ اہل مصر نے کہا کہ ہم نے ایک خط لکھا جو  
 کے ہاتھ خلیفہ نے والی مصر کے نام بھیجا ہے جس میں حکم لکھا ہے کہ ہم جس

س ہنچیں وہ ہم کو قتل کر دے۔ یہ سن کر حضرت علیؑ نے اہل کوفہ و مہجرہ سے  
 چاکہ تم کیسے آئے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے مصری بھائیوں کی امداد  
 آئے ہیں انھوں نے کہا کہ تمہارا راستہ بالکل دوسری سمت میں تھا۔ یہاں  
 سے تین منزل جاتے کے بعد تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ مصریوں کے متعلق  
 باقرمان نافذ ہوا ہے اور اس کو انھوں نے پکڑ لیا ہے جو تم ان کی امداد کے  
 لئے واپس آ گئے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب لوگوں کا بیان غلط ہے۔  
 نے پہلے ہی سے اس کی سازش کر رکھی تھی۔

ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو چاہیں خیال کریں ہم کو اس خلیفہ کی ضرورت  
 میں ہے۔ اس کا خون بہانا حلال ہے۔ آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شرکت  
 لیجئے انھوں نے کہا کہ میں بس میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ان لوگوں  
 نے کہا کہ پھر آپ نے ہم کو لکھا کیوں تھا حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کچھ  
 کو نہیں لکھا یہ سن کر وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسدوں نے حضرت علیؑ کی طرف سے جعلی  
 خط لکھ کر لوگوں کو اپنے دام تزویر میں کھینچا یا تھا۔ حضرت علیؑ ان کو چھوڑ  
 کر مدینہ سے باہر چلے گئے۔

وہ لوگ اس فرمان کو جس کی بابت وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے خلیفہ  
 کے قاصد کو نکر کر پھینکا ہے لے کر حضرت حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ

آپ نے ہمارے بارے میں یہ حکم لکھا ہے :

انھوں نے جواب دیا کہ دو صورتیں ہیں یا تو تم اس کے ثبوت میں دو گواہ  
پیش کرو۔ ورنہ مجھ سے قسم لے لو جو میں نے اسے لکھا ہو یا اس کا علم بھی ہوتا  
تم جانتے ہو کہ کسی کی طرف سے خط لکھ لینا بہت آسان ہے۔ نیز ایک مہر کی  
طرح دوسری مہر بھی بنوائی جاسکتی ہے۔

باغیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے قتل کا فرمان لکھا ہے ہم آپ کی غلام  
نہیں چاہتے بلکہ آپ کا خون ہمارے لئے مباح ہے۔ پہلے انھوں نے  
زور دیا کہ وہ خلافت سے دست بردار ہو جائیں۔ لیکن حضرت عثمان نے انکار کیا  
اور کہا کہ جو عزت کی قبض اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پہنائی ہے میں خود اس کو نہیں  
اُتاروں گا۔

چند دنوں تک یہ مسجد میں امن کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ لیکن پھر  
باغیوں نے ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا۔ یہاں تک کہ پانی بھی روک دیا۔  
بڑی کوشش سے مخفی طور پر ایک پڑوسی کے ذریعہ سے ان کے یہاں پانی  
کے لئے پانی پہنچایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان ان سرکشوں کو بار بار سمجھاتے اور  
نصیحت کرتے تھے لیکن ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔

معاشرہ ہی کی حالت میں عبداللہ بن عباسؓ کو امیر الحج مقرر کیا اور  
اپنی مفصل حالت لکھ کر ان کو دی کہ مکہ میں مسلمانوں کو سناویں۔



باغیوں نے سوچا کہ محاصرہ میں زیادہ دیر ہو گئی تو جا بجا سے مسلمان خلیفہ کی  
 نعت کے لئے آجائیں گے اس لئے انھوں نے عجلت کر کے گھر کے دروازے  
 ن آگ لگا دی اور اس کو گرا کر اندر گھس آئے۔ بعض لوگ ابن حزم کے مکان  
 سے جو خلیفہ کے پڑوسی تھے کو در داخل ہوئے۔

حضرت عثمان نے یہ حالت دیکھ کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ حضرت علی  
 لہ اور زبیر رضی اللہ عنہم کے بیٹے وغیرہ جو ان کی مدافعت کے لئے آگئے تھے  
 وہ جن کی تعداد اس قدر کم تھی کہ ان سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ ان کو یہ کہہ کر رخصت  
 کیا کہ تم لوگ میرے لئے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور خود اطمینان کے ساتھ  
 بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔

پہلے باغیوں کی ایک جماعت ان کی طرف آئی جن میں محمد بن ابوبکر تھے  
 لیکن اس نے قتل نہیں کیا۔ پھر مصر لوں کا سردار غانقی پہنچا۔ اس نے چہرے  
 سے فار کیا۔ اس کے بعد سودان بن حمران نے تلوار ماری۔ حضرت عثمان کی وفادار  
 بیوی نائلہ بنت الفرافصہ روکنے کی غرض سے ان کے اوپر آ کر گریں سودان  
 کی تلوار سے ان کی نصف ہتھیلی معہ انگلیوں کے کٹ کر ڈور جا پڑی۔ پھر کسی  
 قیسرے شخص نے خلیفہ کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اس کے بعد باغیوں  
 نے گھر کا سارا مال و متاع لوٹ لیا۔ اور مدینہ میں ان کے قتل کا اعلان  
 کر دیا۔

محاصرہ کی کل مدت ۲۲ روز تھی اور ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ مطابق ۲۰ مئی ۶۵۶ء کو وہ قتل ہوئے۔ اسی منحوس تاریخ سے امت میں فتنہ کا آغاز ہوا اور ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان پر چلنے لگی۔

۱۔ بزرگانِ ملت جب باہم ایک دوسرے کے خیر خواہ اور حامی ہوں تو امت میں کوئی فتنہ برپا نہیں ہو سکتا

## قتل کے اسباب

لیکن جب ان کے دلوں میں محبت کے بجائے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو مفسدوں کو موقع مل جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت روم اور مدینہ کا تھا ان میں سے بعض دو بدو اور بعض پس پشت حضرت عثمان کے حق میں ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جن سے ان کی تحقیر ہوتی تھی۔ علم طور پر ان کو نعل کا خطاب دیا گیا جو ایک مصری شخص کا نام تھا جس کی ڈاڑھی بہت لمبی تھی اور غالباً اس کے صوا اور کوئی عیب ان کے اندر پایا بھی نہیں جاتا تھا۔

حضرت عثمان ان باتوں کو برداشت کرتے تھے کیونکہ کسی کے اوپر سختی کرنا باطبیح ان کو ناگوار تھا۔

روسیا کی ان حقارت آمیز باتوں کا اثر عوام پر بہت بُرا پڑا۔ ان کے دلوں سے غلیفہ اور اسی کے ساتھ خود خلافت کی بیعت و عظمت جاتی رہی۔ یہاں تک کہ ایک روز کسی شخص نے اُٹھ کر اس عصا کو توڑ کر پھینک دیا جس کو ہاتھ میں لے کر حضرت عثمان مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ پڑھا کرتے

تھے۔ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا۔

۲۔ حضرت عثمان غنی علم حیا اور نرم مزاجی میں ہمیشہ سے مشہور تھے اور وہ

اس سے بہت خائف رہتے تھے کہ کسی فتنہ کا آغاز ان کی ذات سے ہو۔

اسی لئے اکثر امور میں چشم پوشی کرتے تھے اور نرمی سے کام لیتے تھے۔ یہ خلق

کسی حکیم یا عالم میں ہو تو بہت قابل تعریف ہے۔ لیکن فرماں روا اور خلیفہ

کے لئے پسندیدہ نہیں۔ کیونکہ اس سے حکومت اور خلافت کا رعب رعایا کے

دلوں میں قائم نہیں رہتا اور وہ اپنے حارود سے تجاوز کر جاتے ہیں نیز فتنہ پرداز

اس کی نرم خونی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں میں شورش پھیلا کے لگتے ہیں

چنانچہ حضرت عثمان کو ان کے اصرار نے حج کے موقع پر متفقہ طور پر یہ مشورہ

دیا تھا کہ ان مفسدوں کی گوشمالی کیجئے۔ لیکن انھوں نے سختی کو پسند نہ کیا

نتیجہ یہ ہوا کہ فتنہ بڑھ گیا۔ پھر جب وہ لوگ پہلی بار مدینہ میں آئے تو دلوں

بھی اہل زائے نے ہی کہا کہ ان کو پکڑ کر قتل کر دیجئے۔ لیکن انھوں نے

اس وقت بھی کچھ نہیں کیا۔ صرف ان کے جوابات دینے پر کفایت کی حالانکہ

ان مفسدوں کا مقصد اصلاح نہ تھا۔ بلکہ فساد پیدا کرنا چاہتے تھے۔

۳۔ عبداللہ بن سبا جو اس تمام فتنہ کا بانی تھا اس کی اصل غرض ہی

تھی کہ مسلمانوں میں سیاسی تفرقہ ڈال کر ان کو برباد کر دے۔ اس نے اس

زمانہ کے نیک اور سادہ دل عوام کو رسول اللہ اور ان کی آل کی محبت کے

اظہار سے اپنے دام فریب میں پھنسا لیا اور وہ اس کے کہنے سے بالکل جھوٹے  
 اور غلط الزامات لگا کر خلیفہ اور امراء وقت کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے  
 ولید بن عقبہ کی شکایت کی۔ یہی ولید حضرت عمرؓ کے عہد میں ان کی وفات  
 تک عامل رہے تھے۔ وہ سعید بن عاص کے دشمن ہو گئے جن کو بصرہ کے  
 باشندے سب سے بہتر امیر تسلیم کر چکے تھے۔ امیر معاویہ پر الزامات تراشتے  
 تھے جو خلیفہ اول بلکہ عہد رسالت سے معتمد علیہ تھے اور جن کی بدولت  
 رومیوں کے مقابلہ میں اسلام کو زبردست قوت اور شوکت حاصل ہو گئی تھی  
 عبداللہ بن سعد والی افریقیہ کے مخالف تھے اس وجہ سے کہ آنحضرت نے  
 ایک بار ان کے قتل کا حکم دیا تھا لیکن حضرت عثمانؓ نے بیچ میں پڑ کر  
 معاف کر لیا تھا حالانکہ جب دربار رسالت سے ان کا جرم معاف کر دیا گیا تو  
 اس کے معنی یہ ہوتے کہ ان کے اوپر ایک داہنی پردہ ڈال دیا گیا۔

افسوس یہ ہے کہ اس فساد انگیز جماعت کی طرف امت کے رہنماؤں  
 نے بھی بروقت توجیہ نہ کی۔ آخر کار اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے عظیم الشان فتنہ  
 کا دروازہ کھل گیا جو بڑی تباہیوں کا موجب ہوا۔

اس حادثہ کی ذمہ داری جن لوگوں پر عائد ہوتی ہے حقیقت ہے کہ  
 حضرت عثمانؓ کا ان میں سب سے کم قصور ہے۔ کیونکہ بروہاری اور زرم غنی  
 کسی زمانہ میں بھی قابلِ ملامت نہیں سمجھے گئے تھے۔ روسا مدینہ جن میں اہل بیان



صحابہ اور امراء لشکر موجود تھے ان کے اوپر تاریخ یہ گرفت کر سکتی ہے کہ انھوں نے خلیفہ کی حمایت اور مدافعت میں پوری کوشش نہیں کی۔ ورنہ یہ شورش انگیز آفتابی کبھی اس طرح خلیفہ کو قتل اور خلافت کو ذلیل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دراصل نتیجہ تھا اس بات کا کہ دلوں میں باہم وہ اتھلا باقی نہیں رہ گیا تھا۔ جو پہلے خلفاء کے وقت میں تھا۔

**دفن عثمان** عجیب بات یہ ہے کہ ان باغیوں نے قتل کرنے کے بعد حضرت عثمان کے دفن کی بھی اجازت نہیں دی۔ بڑی مشکل سے مخفی طور پر رات کو چند آدمیوں نے لے جا کر ان کو دفن کیا حضرت جبیر بن مسلم نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔

**بیت عثمان** مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ ان کے لطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ پھر رقیہ کے بعد ان کی دوسری بہن ام کلثوم ان کے نکاح میں آئیں۔ تیسری بیوی فاتمہ بن عزدان تھیں۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ اصغر رکھا۔ یہ بھی کمسنی میں گزر گئے۔ چوتھا نکاح ام عمرو بنت جناب کے ساتھ کیا۔ ان سے عمر، خالد، ابان اور مریم چار اولادیں ہوئیں۔ پانچواں نکاح فاطمہ مخزومیہ کے ساتھ ہوا۔ ان سے ولید سعید اور ام سعید تین بچے ہوئے۔

ام القبیین بنت عیینہ بن حصن فزازی بھی ان کے نکاح میں آئیں۔ ان کے  
 شکم سے عبدالمالک پیدا ہوئے جو لڑکپن میں وفات پا گئے۔ ساتواں  
 نکاح رملہ بنت شیبہ سے ہوا۔ ان سے عائشہ ام ابان اور ام عمر تین  
 بیٹیاں ہوئیں۔ آخری بیوی نائلہ بنت المرقاضہ تھیں۔ ان سے ایک بیٹی  
 مریم پیدا ہوئیں۔

جس وقت قتل ہوئے اس وقت فاختہ۔ ام القبیین۔ رملہ اور نائلہ  
 چار بیویاں تھیں۔

حضرت عثمان ابتدا سے حیا۔ حسن صورت و سیرت اور ذاتی  
 ماتر عثمان میں مشہور اور قریش میں ہر وعزیز تھے۔ اسلام لانے کے بعد

سب سے پہلے جس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ یہی تھے۔ پھر مدینہ کی طرف  
 بھی ہجرت کی۔ حبشہ کی امداد کے لئے ایک ہزار اونٹ، بیچاس گھوڑے  
 اور ایک ہزار دینار دئے۔ پھر وہ جو یہودیوں کا کنواں تھا اس کو بیس ہزار  
 درہم پر خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا۔ ۲۶ھ میں کعبہ کے ارد گرد  
 کے مکانات خرید کر حرم کو بڑھایا۔ اسی طرح ۲۹ھ میں مسجد نبوی میں اضافہ  
 کیا اور چوتے اور پتھر سے اس کی تعمیر کی۔ رمضان میں اہل مدینہ کو  
 کھانا کھلاتے تھے اور کوفہ میں بھی ضیافت خانے بنوائے تھے۔  
 شرافت۔ خوش خلقی۔ عبادت۔ تقویٰ اور کرم میں نہایت ممتاز تھے اور

عدل و انصاف و مساوات کے اسی قدر عاشق تھے جس قدر حضرت عمرؓ۔ انہری  
 زمانہ خلافت میں کبیرتی کی وجہ سے اگر بنی امیہ اور خاص کر مروان بن حکم کی رائے  
 میں نہ آگئے ہوتے تو ان کا زمانہ عہد فاروقی سے کم نہ ہوتا۔

صحابہ میں کتاب اللہ کا حافظ ان سے بہتر کوئی نہ تھا۔ قرآن سے ان کو  
 سیری نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ساری رات اس کی تلاوت میں گزار دیتے تھے۔  
 جب اختلاف قرأت کا خوف ہوا تو امت کو ایک قرأت پر مجتمع کرنے کے  
 مصحف اعلیٰ کا ایک ایک نسخہ نقل کرا کے ہر سر صوبہ میں بھیج دیا جن میں سے  
 بعض اب تک محفوظ ہیں۔

عبداللہ بن جعفری	مکہ
قاسم بن ربیعہ ثقفی	طائف
یعلیٰ بن مینہ	صنعاء
عبداللہ بن ربیعہ	جند
عبداللہ بن عامر	بصرہ
ابو موسیٰ اشعری	کوفہ
امیر معاویہ	شام
حبیب بن مسلمہ فہری	قنسریں
عبداللہ بن سعد	مصر

## عمال عہد عثمان

بیت المال پر عقبہ بن عامر اور قضا پر حضرت زید بن ثابت تھے۔  
 اگرچہ ان امراء میں سے صرف تین شخص حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے۔  
 یعنی امیر معاویہ، عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن سعد لیکن اصلیت یہ ہے کہ  
 بڑی بڑی ولایتیں صرف پانچ تھیں۔

بصرہ۔ اس کے تابع تمام مشرقی مقبوضات تھے۔

کوفہ۔ اسے اور آذربایجان کا دارالحکومت تھا۔

قنسٹرین۔ اس کے ماتحت سارا ازمینیہ تھا۔

مصر۔ کل افریقی مفتوحات کا مرکز تھا۔

شام و پورے چار صوبوں حمص، دمشق، فلسطین اور اردن کا مجموعہ تھا۔

ان پانچ میں سے تین پر ان کے رشتہ دار تھے جو اپنے ماتحت عمال کو

خود متفر کرتے تھے۔ کوفہ میں بھی پہلے سعید بن عاص تھے جو حضرت عثمان

کے قرابت مند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے ان پر نکتہ چینی کی تھی کہ وہ

اپنے رشتہ داروں کو حکومتیں دیتے ہیں۔



# حضرت علی کرم اللہ وجہہ

حضرت علیؑ کے انتخاب کی کیفیت سابقہ خلفاء کے انتخاب سے بالکل

جدگانہ تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خفیف اختلاف کے بعد لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ جب وہ گزر گئے تو حضرت عمرؓ بذریعہ فرمان ولی عہدی خلیفہ مقرر ہوئے اور کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا۔ اسی طرح خلیفہ ثالث کے انتخاب کے موقع پر چند افراد میں سے ایک خاص شخص کا تعین کرنا تھا۔ وہ بھی کثرت رائے سے طے پا گیا۔ اور باہم کوئی نزاع نہیں پیدا ہوئی۔ کیونکہ ان تینوں موقعوں پر اکابر صحابہ اور اعیان مہاجرین و انصار بشیر مدینہ میں موجود تھے جن کے اتفاق کے بعد تمام امت کا اتفاق ہو جاتا تھا۔

حضرت عثمانؓ کے عاوشہ کے وقت بشیر بزرگان امت دوسرے مقامات میں تھے اور قدرتا مدینہ میں انھیں لوگوں کو خلیفہ

**انتخاب**

حاصل ہو گیا تھا جنہوں نے خلیفہ کو قتل کیا تھا۔ ان کی نگاہ میں حضرت علیؓ سے زیادہ کوئی شخص خلافت کا مستحق نہ تھا۔ چنانچہ باوجود ان کے انکار کے بھی اصرار کر کے ان کو خلیفہ بنایا۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر مالک اشتر نے بیعت کی۔ پھر دوسرے لوگوں نے۔

ان کے نزدیک اب سب سے اہم یہ بات تھی کہ حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ بھی بیعت کر لیں۔ کیونکہ یہ لوگ بھی رجال ثمورائے اور خلافت کے امیدواروں میں سے تھے۔ اس لئے ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ چنانچہ وہ بلائے گئے۔ حضرت طلحہؓ کو کچھ پس و پیش ہوا۔ اس پر اشتر نے توار کھینچ کر کہا کہ اگر بیعت نہ کرو گے تو ایک دار میں پستیانی کے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ مجبوراً انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت زبیرؓ نے بھی انہیں کی تقلید کی۔

سعد بن ابی وقاصؓ بھی طلب ہوئے۔ انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ اور کہا کہ جب تک سب لوگ بیعت نہ کر لیں گے میں نہیں کروں گا۔ لیکن میری طرف سے کسی خطرہ کا اندیشہ نہ کرو۔ لوگوں نے ان کو مہلت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بھی یہی کہا۔ ان سے کہا گیا کہ ضامن لاؤ۔ انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اشتر نے غصہ میں کہا کہ حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت علیؓ نے روکا اور کہا کہ یہ جہالت ہے؟ ان کا ضامن میں ہوں۔

دوسرا انصار میں سے حضرت حسان بن ثابتؓ۔ کعب بن مالکؓ مسلمہ  
 بن مخلدؓ ابو سعید خدریؓ۔ محمد بن مسلمہؓ۔ نعمان بن بشیرؓ۔ زید بن ثابتؓ۔ فضالہ  
 بن عبید اور کعب بن عجرہؓ نے بیعت نہیں کی۔ دیگر مشاہیر میں سے حضرت  
 عبداللہ بن شعبہؓ۔ عبداللہ بن سلامؓ اور قدامہ بن مظعونؓ بھی بیعت میں شریک  
 نہیں ہوئے کچھ لوگ اس خیال سے کہ انکو بیعت نہ کرنی پڑے مدینہ سے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔  
 حضرت علیؓ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔  
 ترجمہ علیؓ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب

بن ہاشم۔ ان کی والدہ فاطمہ بن اسد تھیں۔ ہجرت سے ۱۴ سال قبل ان کی  
 ولادت ہوئی۔ بچپن ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے اور وہیں  
 ان کی پرورش ہوئی۔ آنحضرت صلعم کو جس وقت نبوت عطا ہوئی اس وقت  
 ان کی عمر آٹھ سال کی تھی۔ لڑکوں میں سب سے پہلے ہی ایمان لائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت مدینہ کا حکم ملا اور رات کو  
 گھر سے نکل کر چلنے لگے تو حضرت علیؓ کو اپنے بستر پر سلا یا اور حکم دیا کہ لوگوں  
 کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کو ادا کر کے مدینہ چلے آنا باوجود اس  
 کے کہ دشمنان دین گھر کے چاروں طرف تھی تو وہیں سے ہوتے گھر سے تھے  
 لیکن حضرت علیؓ نے خوف و خطر اس بستر پر آپ کی دعا مبارک لے کر سو رہے۔  
 ہجرت سے تقریباً پانچ مہینہ کے بعد مدینہ میں آنحضرت صلعم نے ان کا

نکاح حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ کر دیا اس وقت ان کی عمر ۱۱ سال ۵ ماہ  
اور حضرت فاطمہ کی اٹھارہ سال چھ ماہ کی تھی۔

سوائے جنگ تبوک کے باقی تمام غزوات میں آنحضرت کے ہمراہ  
رہے اور بے نظیر شجاعت کا اظہار کیا۔ سخت سے سخت لڑائی میں بھی ان  
کے پائے ثبات کو لغزش نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر ہند نامے اور خطوط ہی لکھنے نہ  
جب آنحضرت نے وفات پائی تو بوجہ قرابت قریبہ کے خلافت کے  
یہ اپنے سنی کہ مزاج سمجھنے نخصے لیکن سفینہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر  
کی خلافت پر لوگوں نے اتفاق کر لیا۔ اس لئے انہوں نے بھی بیعت کر  
اس کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ ہو گئے ان کے عہد میں یہ مشیر خاص رہے ان  
وفات پانچ ماہ پر امید قوی تھی کہ ان کا انتخاب ہو جائے گا لیکن حضرت عثمانؓ  
ہو گئے بالآخر ان کے قتل کے پانچ روز کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی  
بیعت کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر ایک فصیح و بلیغ خط  
خطبہ خلافت اور مشورہ فرمایا جس میں مسلمانوں کے باہمی حقوق کی تشریح

اور ان کو فتنہ سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی۔ نیز یہ بتلایا کہ ہم میں سے ہر  
شخص کی ذمہ داری کیا ہے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ تقویٰ کی طرف توجہ  
دلائی اور فرمایا کہ جو کچھ ہم دنیا میں کریں گے اسی کا نتیجہ آخرت میں دیکھیں۔



خطبہ کے بعد صحابہ کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ خلیفہ کا پہلا فرض یہ ہے کہ حدودِ شرعیہ کو قائم رکھے۔ لہذا جو لوگ خلیفہ کے قتل میں شریک ہوئے ان سے قصاص لینا چاہیے۔ فرمایا کہ میں بھی اس بات کو جانتا ہوں لیکن غم دیکھتے ہو کہ وہی لوگ ہمارے اوپر غالب ہو رہے ہیں اس لئے جب تک ہم مغلوب ہیں کیونکہ قصاص لے سکتے ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو فعل کیا ہے وہ جاہلیت کا فعل ہے۔ اطمینان اور سکون ہو جانے دو اس وقت کہنا۔ اس وقت مجھے مہلت دو لوگ واپس چلے آئے لیکن مختلف قسم کے خیالات دلوں میں پیدا ہونے لگے۔ بعض لوگوں نے اس جواب کو معقول سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان باغیوں کی حالت اگر یہی رہی تو ان کا زور دن بدن بڑھتا جائے گا اور پھر ہم کبھی ان سے قصاص لینے پر قادر نہ ہونگے۔ بنی اُمیہ بالعموم اور بعض دیگر صحابہ مدینہ سے نکل گئے تھے۔ اس لئے جو لوگ باقی رہ گئے تھے حضرت علی نے ان کو مدینہ میں روک لیا وہ لوگ اس سے بددل ہو گئے اور کہنے لگے کہ خلافت ان کے ہاتھ میں رہی تو یہ قریش پر سب سے زیادہ سختی کریں گے۔

خلیفہ ہونے کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلے حضرت عثمانؓ پہلا کام کے عہد کے تمام والوں کی معزولی کا فرمان لکھوایا اور ان

کے بچائے دوسرے لوگوں کو مقرر کر کے روانہ کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جو مدینہ بن عرب میں ممتاز خیال کئے جاتے تھے ان کو اس سے روکنے کی کوشش کی۔ نیز ان کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے کہ وہ بھی عقلاء قریش میں سے تھے اس کا انجام سمجھا کر اس سے باز رکھنا چاہا۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا۔

غالباً ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ امر اس قابل نہیں ہیں کہ ایک دن بھی واپسی رکھے جائیں لیکن قانونی حیثیت سے اگر اتنا انتظار کیا جاتا کہ خود یہ امر اور دیا و امصار کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کیونکہ اس کے بعد بلا خوف و خطر جس کو چاہتے معزول کر دیتے ہیں لے کر خلیفہ کو یہ اختیار ہے کہ جس کو چاہے واپسی بنا لے اور جس کو چاہے بظرف دے اور بلا تکمیل بیعت یہ اندیشہ ضرور تھا کہ امر ان کی خلافت ہی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے اس لئے عجیب و غریب عجلت کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ اس انتظار میں کوئی شرعی مواخذہ بھی نہ تھا۔ بخلاف اس کے خلیفہ کے قاتلوں سے قصاص لینے میں تاخیر کو انہوں نے خود روا رکھا تھا حالانکہ وہ ایک شرعی حد ہے جس میں تساہل کرنے پر مواخذہ عظمیٰ کا خطرہ تھا۔

عثمان بن عفیف کو بصرہ، عمارہ بن شہاب کو کوفہ، عبید اللہ بن عباس کو مین، قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر اور سہل بن حنیف کو شام کی امارت کا

فرمان دے کر روانہ کیا۔

سہاں جس وقت تنوک میں پہنچے شامی سواروں کا ایک دستہ ان کے سامنے آیا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں خلیفہ کی طرف سے شام کا امیر مقرر ہوا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت عثمان کے پورے مقرر کیا ہے تو خوشی سے تشریف لےتے ورنہ واپس جانیے مجبوراً مہل واپس چلے آئے۔ قیس بن سعد حب مصر میں پہنچے تو وہاں تین جماعتیں ہو گئیں۔ کچھ لوگ مخالف تھے۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب تک خلیفہ ہمارے بھائیوں سے قصاص نہ لیں گے ہم ان کے طرفدار ہیں بعض لوگ دونوں فریق کا ساتھ چھوڑ کر کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر حضرت علی نے خلیفہ مقتول کا قصاص لیا تو خیر، ورنہ ہم ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔

والی بصرہ عبداللہ بن عامر حج کے لئے آئے ہوئے تھے۔ عثمان بن حنیف کے پہنچنے پر مصر کی طرح وہاں بھی تین جماعتیں ہو گئیں۔

عمارہ سے کوفہ کے راستہ میں مقام نہ بالہ میں طلحہ بن خویلد اسدی ملے جو حضرت عثمان کے قتل کی خبر سن کر ان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے آ رہے تھے۔ انہوں نے عمارہ سے کہا کہ یہیں سے ہلٹ جاؤ ورنہ ہم تمہارا سر کاٹ لیں گے۔

مین میں عبداللہ بن عباس کے آئے کی خبر سن کر علی بن منبہ خراج کی کل رقم جو وصول ہوئی تھی لے کر مکہ چلے آئے۔

## شورش عام

تمام اسلامی صوبوں کے صد مقامات میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ امیر معاویہ والی شام جو بنی امیہ کے رئیس اعظم تھے حضرت

علی کی خلافت پر رضامند نہ ہوئے کیونکہ وہ خلیفہ کے قتل کے حادثہ میں حضرت علی کو متہم سمجھتے تھے اور اس تہمت کو اس سے تقویت پہنچی۔ کہ حضرت علی نے ان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا بلکہ ان کو اپنے لشکر میں رکھا۔ علاوہ

بہیں حضرت علی کی طرف سے ان کی معزولی کا فرمان صادر ہوا جس سے انھوں نے یہ خیال کیا کہ ان کی خلافت کا نتیجہ میرے حق میں اچھا نہ ہوگا۔

چونکہ ان کے ساتھ ایک عظیم الشان فوج بھی تھی جس میں وہ بہت ہر دل عزیز ہوتے اور خود بہ نسبت کسی دوسرے شخص کے انہیں خلافت کا زیادہ مستحق سمجھتی تھی اسی لئے انہوں نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا۔

حضرت علی نے میر جہنی کو ان سے بیعت لینے کے لئے بھیجا لیکن امیر معاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔

حضرت عثمان کے قتل کے تیسرے مہینے اعلان مخالفت کے لئے بنی حبش کے ایک شخص کو ایک مادہ قرطاس دیا جس پر نیچے ان کی ہرگی ہوئی تھی اور عثمان پر صرف یہ لکھا ہوا تھا۔

از معاویہ بہ علی (رضی اللہ عنہ)

اور اس سے کہہ دیا کہ جب تم مدینہ میں داخل ہونا تو اس کو نیچے سے پکڑ



کر ہاتھ میں لٹکاتے رکھنا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔

یکم ربیع الاول ۳۶ھ کو عبسی مدینہ میں داخل ہوا لوگوں نے اس  
ظہار کو دیکھا۔ پھر وہ حضرت علی کے پاس آیا اور اس کو ان کے حوالہ کیا انہوں  
نے فرمایا کہ اس میں تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تم بتلاؤ کہ بات کیا ہے اس  
نے کہا کہ جامع دمشق کے منبر پر خلیفہ مقتول کے خون آلود پیرا بن لور  
نائلہ کھا کٹا ہوا ہاتھ رکھا ہے اور ساٹھ ہزار آدمی ان کا ماتم کر رہے ہیں وہ  
لوگ جب تک ان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے کبھی راضی نہ ہوں گے۔  
حضرت علی نے پوچھا کہ کس سے بدلہ لیں گے اس نے کہا کہ آپ سے۔  
فرمایا کہ میں تو خود عثمان کی طرح مغلوب ہوں۔ اب حضرت عثمان کے قاتل  
بچ گئے ان سے قصاص ملنا مشکل ہے اس کے بعد اسماں کی طرف رخ کر کے کہا۔  
اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔

عجیب بات یہ ہے کہ جب عبسی فرستادہ واپس چلا تو سبائی فرقہ کے  
لوگوں نے قتل کرنے کے لئے اس کا بیچا کیا اس نے مدینہ کے قبائل  
کو پکارا آخر لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی۔

امام حسن نے حضرت علی سے عرض کیا کہ باہم مسلمانوں میں خونریزی  
نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ مقابلہ کے لئے تیار ہوئے۔ فہم بن عباس کو مدینہ  
میں اپنا کا مقام کیا اور اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو علم عطا فرما کر خود فوج

اور مسلمان کی فراہمی میں مصروف ہو گئے۔

اسی اثنا میں ایک دوسری خبر آئی جو اس سے بھی سخت تھی یعنی یہ کہ  
ام المومنین عائشہؓ اور حضرت طلحہؓ اور زبیر رضی اللہ عنہم بصرہ پہنچ گئے۔  
اور وہاں حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے لئے اجتماع ہو رہا ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ مدینہ سے حضرت عثمان کی شہدائی کے زمانہ  
میں حج کے لئے تشریف لے گئی تھیں وہیں ان کو اطلاع ملی کہ باغیوں نے  
خلیفہ کو قتل کر ڈالا اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان کو خلیفہ کے  
قتل سے نہایت صدمہ ہوا۔ انھوں نے حرم میں مسلمانوں کے سامنے ایک  
نوٹ تقریر کی جس میں ثابت کیا کہ جن لوگوں نے خلیفہ کو قتل کیا ہے اسلام  
کا ایک بہت بڑا اصول توڑ ڈالا ہے اور وہ لوگ باغی ہیں مسلمانوں کا  
فرض ہے کہ اس فساد کی اصلاح کی کوشش کریں۔

مکہ میں اس وقت عبداللہ بن حضرت علیؓ سے بصرہ سے علی بن  
منبہ بھی آگئے اور مدینہ سے حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ بھی پہنچ گئے۔ ان  
سب لوگوں نے باہم طے کیا کہ بصرہ میں چل کر حضرت عثمانؓ کے قصاص  
کا مطالبہ کیا جائے۔ مروان وغیرہ اکثر افراد بنی امیہ کے بھی اس جماعت  
میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عتاب بن اسد میر قافلہ مقرر ہوئے۔  
وہی نماز پڑھاتے تھے۔

جب بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں کے امیر عثمان بن عقیف نے جو  
 حضرت علی کی طرف سے مقرر ہوئے تھے عمران بن حصین اور ابوالاسود  
 کو اس قافلہ میں بھیجا کہ دریافت کریں کہ آنے کی غرض کیا ہے۔ حضرت عائشہ  
 نے فرمایا کہ ہم خلیفہ مقتول کا قصاص چاہتے ہیں۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے  
 بھی یہی جواب دیا۔ ان دونوں نے کہا کیا تم لوگوں نے حضرت علی کے قاتل  
 پر بیعت نہیں کی۔ کہا بے شک! لیکن جبراً ہم سے بیعت لی گئی۔  
 عثمان بن عقیف نے یہ سن کر جا ہا کہ اس قافلہ کو بصرہ میں آنے سے  
 روکیں لیکن وہاں کے مساب لوگ ہم خیال نہیں تھے۔ عثمان اپنی جماعت  
 لے کر نکلے اور اس قافلہ کے بائیں پہلو پر مقام مرید میں ٹھہرے۔ بصرہ کی  
 دوسری جماعت جو ام المومنین کی ہم آہنگ تھی دائیں طرف جا کر مجتمع ہوئی۔  
 حضرت طلحہ اور زبیر نے لوگوں کو مخاطب کر کے خلیفہ مقتول کے قصاص  
 کے مطالبہ کے لئے جوش دلایا۔ عثمان کے ساکتی مخالفت پر آمادہ ہوئے  
 اور لڑنے کے لئے بڑھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ نے جن کی آواز بلند اور رسوا  
 تھی مجمع کے سامنے تقریر شروع کی۔ ان کے بیان سے نہ صرف لڑائی رک  
 گئی بلکہ مخالفین تصف سے زائد آکر ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور کہنے  
 لگے کہ ام المومنین نے جو کچھ فرمایا بالکل درست اور صحیح ہے۔  
 حکیم بن جبہ جس کے یہاں عبداللہ بن عباس سے پہلے آکر ٹھہرنا

اس نے جنگ شروع کر دی۔ لوگوں نے اس کو منع کیا اور اس سے ہاتھ روک رکھا لیکن جب وہ نہ مانا تو مدافعت کی۔ کھوڑی دیر میں رات کی تاریکی نے لڑائی کو ختم کر دیا۔

دوسرے دن صبح کو عثمان اور حکیم دونوں نے جنگ شروع کی حضرت عائشہ کا منہ پر ابران کو آواز دینے لگا کہ نہ لڑو۔ لیکن وہ دوپہر تک لڑتے رہے۔ آخر میں جب شکست کھانی تو صلح کی۔ قرار داد یہ ہوئی کہ مدینہ میں ایک مختبر آدمی بھیجا جائے جو وہاں کے لوگ اسے دریافت کر کے آئے کہ حضرت طلحہ اور زبیر سے جبراً بیعت نہیں ہوئی۔ میں اگر واقعی جیسا کہ ان کا بیان ہے ان کے سروں پر تلوار رکھ کر بیعت لی گئی ہے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ورنہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔

بصرہ کے قاضی کعب بن زہیر مدینہ روانہ کئے گئے انھوں نے پہنچ کر مسجد نبوی میں پکار کر کہا کہ میں بصرہ نے یہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر کی بیعت جبراً لی گئی یا انھوں نے اپنی خوشی سے کی۔

لوگ سن کر خاموش رہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے صاف کہہ دیا کہ دونوں سے جبراً بیعت لی گئی ہے۔ سہل بن حنیف اور ان کے چند صحابہ حضرت اسامہ پر حملہ کر بیٹھے۔ مگر حضرت صہیب بن ارباب انصاری اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم



نے پہچان لیا ہوتا تو یقیناً وہ لوگ ان کو مار ڈالتے۔ حضرت صہیب اسامہ کو اپنے گھر لے گئے لود کہا کہ جس طرح ہم سب لوگ خاموش رہے اگر اسی طرح تم بھی چپ رہ جلتے تو کیا حرج تھا۔

حضرت علی کو جب اس بات کا علم ہوا تو انھوں نے عثمان بن حنیف کو نیک لکھا کہ تم قسائل کو رہے ہو اگر ان سے جبراً مجبور ہو جیتا لی گئی تو کیا ہوا۔ کیونکہ وہ اتحاد پر مجبور کئے گئے نہ کہ افتراق پر۔

کعب بن سعد اور یہ خط دونوں ایک ساتھ پہنچے۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے عثمان سے کہا کہ کعب نے یہ خط لکھا ہے اس کی تصدیق کر دی اس لئے قرار داد کے مطابق تم ہمارے ساتھ رہ جاؤ۔ لیکن انھوں نے خلیفہ کے حکم کی بنیاد پر انکار کر دیا۔ آخر حضرت عائشہ نے حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو۔ ہر دو جانب چلے جائیں۔ وہ رہا ہو کر مدینہ میں حضرت علی کے پاس آئے۔ جبکہ اور اس کے بہت سے ساتھی جو حضرت عثمان کے خون میں شہید ہوئے تھے مارے گئے۔

اس کے بعد اعلان عام کر دیا گیا کہ جس میں سے کسی کو ایسے لوگ ہوں جو حضرت عثمان کے قتل میں شرکت رکھتے تھے پر رہائے جائیں چنانچہ اس قسم کے بہت سے لوگ لائے گئے ان میں سے جس جس کا جرم پاتے

بصرہ سے کوفہ اور شام میں بھی خطوط بھیجے گئے کہ وہ لوگ بھی خلیفہ  
مطلوب کے قصاص کے مطالبہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔

واقعہ حمل | حضرت علی شام پر لشکر کشی کی تیاری کر رہے تھے لیکن جب  
بصرہ کے اجتماع کی خبر معلوم ہوئی تو پہلے اسی طرف رخ کرنا

مناسب سمجھا۔ مدینہ سے ایک انبوہ ان کے ساتھ چلا مقام نہدہ میں پہنچا  
چند آدمیوں کو کوفہ بھیجا کہ وہاں سے لوگوں کو مدو کے لئے لائیں۔ جب وہ  
کوفہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے رذسارہ والی کوفہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس  
جمع ہوئے اور ان سے اس معاملہ میں مشورہ چاہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک

ایسا فتنہ ہے کہ اس سے بالکل لگا رہنا چاہیے اس میں جو سویا ہے وہ  
بیٹھے اور جو بیٹھا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے حضرت علی کے فرسارہ

نے اپنی تقریروں میں ابو موسیٰ کی سخت مخالفت کی اور ان کو سخت دست  
بھی کہا۔ سب کے بعد امام حسن نے لوگوں کو مخاطب کیا اور ان کو نرمی کے

ساتھ سمجھا کر کہا کہ خلیفہ کے حکم سے سزائی نہ کرو اور جو مصیبت اس وقت  
نازل ہوئی ہے اس کے دفع کرنے میں ان کی امداد کرو۔ ان کے سمجھانے

سے لوگ چلنے کے لئے تیار ہو گئے اور کم و بیش نو ہزار آدمی دریا اور خشکی  
کی راہ سے گئے۔

بصرہ کے قریب پہنچ کر حضرت علی نے قحطاع بن عمرو کو ام المومنین

کی خدمت میں بھیجا انہوں نے آگر دریافت کیا کہ آپ کا کیا مقصد ہے؟  
 ام المومنین نے فرمایا کہ اصلاح۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے بھی یہی کہا۔  
 نے پوچھا کہ اصلاح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ خلیفہ مقتول کا قصاص کیونکہ  
 قصاص نہ لینا قرآن کو پس پشت ڈالنا ہے۔ قصاص نے کہا

تم نے بصرہ کے باغیوں سے خود قصاص لینا شروع کیا۔ اگر اس  
 اختیار کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا ہوتا تو تمہارا دعویٰ زیادہ قوی ہوتا۔  
 تم نے یہاں کے ایک کم چھ سو آدمیوں کو جو حضرت عثمان کے  
 خون میں شرکت رکھتے تھے قتل کیا جس کی وجہ سے چھ ہزار آدمی  
 تمہارا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ جب اس ایک سو قوس بن زبیر  
 کو بھی تم نے پکڑنا چاہا تو وہی چھ ہزار اس کی حمایت کے لئے  
 کھڑے ہو گئے اور اسخروہ گرفتار نہ ہو سکا۔ لہذا اس سے قصاص  
 لینا تم نے ترک کر دیا۔ یہ قرآن کا پس پشت ڈالنا نہیں ہے جس  
 بات کو خود چھوڑنے پر اس کا دوسروں سے مطالبہ کرتے ہو۔  
 میرے خیال میں اس فتنہ کا علاج صرف یہ ہے کہ سکون پیدا  
 کیا جائے اس کے بعد ہر قسم کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر تم جیت  
 کر لو گے تو امت کی بہتری کے لئے وہ ایک فال نیک ہوگی اور خلیفہ  
 کے قاتلوں سے قصاص بھی مل جائے گا ورنہ باہمی خونریزی کی شکل

میں وہ لوگ بچ جائیں گے اور امت مصیبت اور آفت میں مبتلا ہو  
 جلتے گی۔ میں اللہ کا واسطہ دلا کر کہتا ہوں کہ یہ ایک آدمی یا ایک  
 خاندان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ساری امت کا ہے۔ اس میں  
 غور فکر سے کام لیجئے اور ایسی روش اختیار کیجئے کہ نہ ہم مصیبت  
 میں پڑیں نہ آپ اور نہ یہ امت۔ جو اس وقت حوادث کے تیرن  
 کا نشانہ ہوئی ہے۔

قعاق کی تقریب سب لوگوں نے پسند کی اور کہا کہ تمہاری باتیں ہماری  
 مناسب اور درست ہیں۔ اگر حضرت علی کا یہی خیال ہے جو تم نے ظاہر کیا  
 تو مصالحت بہت آسان ہے۔

قعاق نے واپس جا کر تمام ماجرا حضرت علی کو سنایا۔ وہ خوش ہوئے  
 دوسرے دن صبح کو بصرہ کی طرف چلے اور حکم دیا کہ ہمارے لشکر میں جو  
 لوگ اس قسم کے ہیں کہ انھوں نے حضرت عثمان کے قتل میں کسی قسم کی اعانت  
 کی ہے یہیں رہ جائیں اور ساتھ نہ چلیں۔ یہ منکر عبداللہ بن سبا نے اپنی  
 جماعت کے لوگوں سے کہا کہ ساتھ ساتھ لگے رہو اور جب دونوں فریق  
 میں تو فوراً جنگ شروع کرو۔ مصالحت کا موقع کسی طرح پر نہ آنے دو۔

حضرت علی بصرہ کے متصل فزوکش ہوئے۔ دونوں طرف سے سفیروں  
 کی آمد و رفت شروع ہوئی اور صلح کی باتیں طے ہو گئیں۔ رات کو لوگ اطمینان



کے ساتھ سوئے ان کو یقین تھا کہ صلح میں اب کسی قسم کا شبر نہیں۔ لیکن طلوع صبح سے پیشتر ہی سب اسی فرقہ نے بصرہ کی جمعیت پر ایک جانب حملہ کر دیا۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسا ہنگامہ ہے معلوم ہوا کہ کوفیوں نے جنگ شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا پہلے ہی سے گمان تھا کہ حضرت علی بلا خونریزی کئے ہوئے نہیں مانیں گے اور حضرت علی نے بھی لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسی فساد منی ہے۔ سبیلوں نے ہوان کے ساتھ لگے رہنے ٹھے فوراً جواب دیا کہ اہل بصرہ نے رات کو ہمارے اوپر چڑھائی کی ہم نے ان کو پیچھے دھکیلا۔ وہاں سواروں نے حملہ کر دیا۔ پھر ادھر سے بھی لوگ پہنچ گئے۔ حضرت علی یہ سکر کئے کہ میں تو پہلے ہی سے جانتا تھا کہ طلحہ اور زبیر بلا جنگ کئے ہوئے نہیں رہیں گے۔ اب فریقین میں جنگ عام شروع ہوئی۔ ادھر سے حضرت علی سوار ہو کر نکلے اور ادھر سے حضرت عائشہ اونٹ پر ہودج میں بیٹھ کر میدان میں نوراہ ہوئیں۔

یہ پہلا دن تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں باہمی خونریزی کے لئے تلواریں کھینچ کر آمنے سامنے آئیں۔

ہمایت سخت جنگ ہوئی بصرہ کے اکثر دوسرا ام المومنین کے اونٹ کے ارد گرد محافظت کے خیال سے آکر جمع ہو گئے۔ وہاں کشتوں کے پتے

لگ گئے۔ خود ہودج میں اس قدر آکر لگے تھے کہ دُور سے وہ کانٹوں کا ایک گچھا معلوم ہوتا تھا۔

حضرت علی نے جب دیکھا کہ اس طرح لڑائی کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا تو حکم دیا کہ اونٹ کا پاؤں کاٹ دیا جائے جب وہ گر پڑا تو اہل بصرہ شکست کھا گئے۔ محمد بن ابی بکر اور عمار بن یاسر نے آکر ہودج کی رسیاں کاٹیں اور اس کو اٹھا کر لشکر سے الگ لے جا کر رکھا اس کے بعد حضرت عائشہ کو بصرہ میں لے گئے۔

اس جنگ میں طرفین سے تقریباً دس ہزار آدمی مارے گئے جن میں حضرت طلحہ اور ان کے بیٹے محمد اور عبدالرحمن بن عتاب وغیرہ ناموران قریش شامل تھے۔ حضرت زبیر بن عوف کی طرف چل نکلے عمرو بن جرموز نے جو ان کے پیچھے لگا تھا وہی سباع میں پہنچ کر ان کو تیر سے ہلاک کر ڈالا۔ مقتولین کو دفن کرانے کے بعد حضرت علی نے بصرہ میں قیام کیا اس کے بعد ام المومنین کی خدمت میں گئے۔ ان سے گفتگو کی اور ان کی مدد کی روانگی کا سامان کیا۔ جس دن وہ روانہ ہوئیں خود بصرہ سے ان کے ساتھ نکلے حضرت عائشہ نے فرمایا:-

مجھ میں اور علی میں بجز ان شکوؤں کے جو باہم رشتہ داروں میں ہوا کرتے ہیں اور کسی قسم کی عداوت یا دشمنی نہیں تھی اور میں

باوجود ناراضگی کے ان کو بہترین لوگوں میں سمجھتی ہوں۔

حضرت علی نے کہا کہ۔

ام المؤمنین نے بالکل سچ فرمایا۔ مجھ میں اور ان میں سابقہ کوئی بخش نہیں تھی۔ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح دنیا میں بیوی تھیں اسی طرح آخرت میں بھی ہوں گی۔  
بصرہ سے ان کی روانگی یکم رجب ۳۶ھ کو ہوئی۔ کئی میل تک خود حضرت علیؑ ساتھ تھے۔ امام حسنؑ اور حسینؑ ایک منزل تک آئے اور محمد بن ابی بکر مدینہ تک ساتھ رہے۔

جب سکون ہو گیا تو حضرت علی نے اہل بصرہ سے بیعت لی وہاں کی امارت کے عہدے پر عبداللہ بن عباس اور خراج کی تحصیل پر زیاد بن ابی سفیان کو مقرر فرمایا۔

یہ جنگ جس نے آئندہ کے لئے مسلمانوں میں باہمی خونریزی کا دوازہ کھول دیا اس کی ذمہ داری سے فریقین میں سے کوئی بھی بہرہ و جوہہ بردی نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت عائشہؓ طلحہؓ۔ زبیر رضی اللہ عنہم خلیفہ مقتول کے عمل کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ قصاص لینے کا حق صرف امام کو حاصل ہے۔ اگر اس الزام پر کہ امام کسی شرعی حد میں کوتاہی کرتا ہے تو سر دوسرا دست اس حق کو اپنے ہاتھ میں لینے لگیں تو اسلامی نظام کی بنیاد ہی

مثبت جلتے گی۔ اس لئے حیرت ہوتی ہے کہ کس اختیار سے انھوں نے اہل بصرہ سے خود قصاص لینا شروع کر دیا۔

علاوہ بریں ایک طرف تو وہ حضرت علی کی امامت کو تسلیم ہی نہیں کرتے دوسری طرف خود انھیں سے مطالبہ کرتے تھے کہ قصاص لیں حالانکہ ایسی صورت میں ان کا مطالبہ صرف یہ ہونا چاہیئے کہ ارباب حل و عقد پہلے امامت کا فیصلہ کر دیں۔ امامت حد کا سوال اس کے بعد کا تھا۔

ادھر حضرت علی کریم اللہ وجہ نے بھی اتنے صبر و تامل سے کام نہیں لیا کہ اس رخنہ کو بہتر طریقہ سے بلاخونریزی کے بند کرنے سے مدد بری کی صفت یہ ہے کہ مشکلات کو حسن تدبیر سے حل کرے اور تو اور صرف اس وقت اٹھائے جب کوئی چارہ کار باقی نہ رہے۔

اس میں شک نہیں کہ ان سبائی شیاطین نے جو مصالحت کے دشمن تھے اپنی عیاری سے امت کو جنگ میں پھنسا دیا لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایسے وقت میں جب کہ چاروں طرف سے امت قصاص کا مطالبہ کر رہی ہو ایسے لوگوں کو اپنی فوج میں رکھنا جن کو باہمی مصالحت سے اپنا نقصان نظر آتا ہو مصالحت کے خلاف تھا کیونکہ وہ بالطبع ہر قسم کے اتفاق اور دشمنی میں رخنہ انداز ہوں گے۔

نیز یہ امر بھی اصول لشکر کشی کے مطابق سپہ سالار کے لئے ایک الزام ہے



کہ اس کی فوج کی کوئی جماعت اس کی نیت کے خلاف اس کو جنگ پر مجبور کر دے۔

جنگ صفین: حمل کی لڑائی واصل و میاچہ تھی ایک اس سے کئی دروناک جنگ کا جو صفین کے میدان میں ہونے والی تھی۔

حضرت علیؑ نے بصرہ سے کوفہ میں آکر عمر بن عبداللہؓ بجلی کو امیر معاویہ کے پاس بیعت کے لئے بھیجا۔ انھوں نے دمشق پہنچ کر اپنے آنے کی عرض بیان کی۔ امیر معاویہ نے کوئی جواب نہ دیا۔

شام کے سرداروں اور سپاہیوں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک خلیفہ مقتول کا قصاص نہ لے لیں گے اس وقت نہ فرس پر سوئس گے نہ اپنی بیویوں سے ملیں گے اور شام اسلامی فوج کا بہت بڑا مرکز تھا۔ رومیوں کے مقابلہ کی وجہ سے وہاں کی فوج جنگ میں مشاق اور سازد سامان سے آراستہ تھی اور امیر معاویہ جو اسلامی اُمراء میں سب سے بڑے میا می مدبر تھے ایک مدت سے ان کے اوپر حکومت کرتے چلے آتے تھے اور ان کے دلوں پر پورا قابو حاصل کئے ہوتے تھے۔

اس عظیم الشان طاقت کی وجہ سے انھوں نے حضرت علیؑ کی بیعت سے نکال دیا اور ان پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ خود خلیفہ مظلوم کے قتل میں شریک یا یہ کہ کم از کم ان کے قاتلوں کے حامی ہیں۔

جویریہ بن عبد اللہ نے واپس آ کر حضرت علی کو شام کی کیفیت سنائی۔ اب ان کے لئے بجز اس کے کوئی چارہ کار نہ تھا کہ لشکر کشی کریں اس لئے، فوج لے کر نکلے اور مقام نخیلہ میں قیام کیا۔ امیر معاویہ کو جب اس کا علم ہوا تو وہ بھی شامی فوجوں کو لے کر روانہ ہوئے۔

حضرت علی جویریہ کے راستے سے رقبہ پہنچے وہاں دریلے فرات کو عبور کیا جب آگے بڑھے تو شامی فوجیں آگئیں۔ دونوں لشکروں کے طلائیوں میں ایک خفیف سی جنگ ہو کر روک گئی۔ اس کے بعد فریقین ایک دوسرے کے بالمقابل خمیر زن ہو گئے۔

حضرت علی نے بشیر بن عمرو انصاری سعید بن قیس ہمدانی اور شبث بن ربعی تمیمی کو امیر معاویہ کے پاس بھیجا۔ جب یہ لوگ ان کے خمیے میں پہنچے تو بشیر نے کہا۔

اے معاویہ! دنیا فانی ہے۔ تم کو اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہاں اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ میں تم کو اللہ کا واسطہ دلا کر کہتا ہوں کہ امت میں تفریق نہ ڈالو اور مسلمانوں کا خون بہانے سے پرہیز کرو۔ امیر معاویہ نے کہا کہ تم نے یہ بوجہ حضرت علی کو کیوں نہیں ستایا انہوں نے کہا کہ وہ سابقین اولین میں سے ہیں اور اپنے فضائل اور آنحضرت کے ساتھ قربت فریہ رکھنے کی وجہ سے کل مسلمانوں سے زیادہ اہمیت کے مستحق ہیں آپ

بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے۔ تاکہ امت کا شیرازہ نہ ٹوٹے۔  
امیر معاویہ نے کہا کہ خلیفہ مظلوم کا خون کہاں جائے گا۔ کیا ہم اس کو بلا  
قصاص کے چھوڑ دیں اس پر شہید بن ربیع کھڑے ہوئے اور امیر معاویہ  
کو مخاطب کر کے کہا کہ :-

تم نے جو کچھ کہا اس سے تمہارا مطلب مجھ گئے۔ جس غرض کے  
لئے تم لڑنا چاہتے ہو وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ تم نے لوگوں کو  
برگشتہ کرنے کے لئے یہ دعویٰ اٹھایا ہے کہ خلیفہ کا قتل ناجائز تھا۔  
اس لئے ان کے قصاص کا مطالبہ کرنا چاہیئے۔ ہم کو خوب معلوم ہے  
کہ تم خود چاہتے تھے کہ وہ مارے جائیں تاکہ تم کو خلافت حاصل  
کرنے کا موقع مل سکے اور یہی وجہ تھی کہ تم نے قسدا ان کی املاؤ  
میں ویر لگائی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ہر شخص اپنی آرزو میں کامیاب  
نہیں ہوا کرتا۔ اگر تم ناکام رہے تو تم سے بڑھ کر کوئی بد بخت نہیں  
ہو سکتا اور اگر کامیاب بھی ہو گئے تو مسلمانوں کی خونریزی کی بدولت  
جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ لہذا دونوں صورتیں تمہارے  
حق میں ٹھہری ہیں اس لئے اللہ کا خوف کر کے اس تفریق سے  
باز رہو اور جو شخص امانت کا مستحق ہے اس کی مخالفت نہ کرو۔  
اس سخت گفتگو کا جواب امیر معاویہ کی طرف سے بھی سخت دیا گیا اور یہ

سفارت ناکام واپس آئی۔

لڑائی شروع ہوئی مسلمانوں کا دل آپس میں لڑتے ہوئے دکھاتا تھا نیز وہ دُستے تھے کہ باہمی خونریزی سے اسلامی قوت فنا ہو جائے گی اس لئے قرظین میں سے ایک ایک دستہ نکل کر کبھی کبھی جنگ آزمائی کر لیتا تھا۔ اسی طرح ذی حجہ کا سانا مہینہ گزر گیا۔ جب محرم ۳۳ھ شروع ہوا تو ایک ماہ کے لئے لڑائی ملتوی ہو گئی۔ امید تھی کہ اس درمیان میں مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائیگی۔

حضرت علیؑ نے عدی بن حاتم طائی۔ یزید بن قیسؑ زیاد بن خصفہ اور شیبث بن ربیع کو جو پہلی بار بھی گئے تھے اور جن کی سخت کلامی سے بے نیل آئے واپس آنا پڑا تھا۔ امیر معاویہ کے پاس بھیجا۔ پہلے عدی نے تقریر کی۔

ہم تمہارے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ اگر تم اسے منظور کر لو گے تو امت میں اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے گا۔ اور

باہمی خونریزی نہ ہوگی وہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ کو ان کے فضائل کی وجہ

سے تمام امت نے یا اتفاقِ خلیفہ تسلیم کر لیا ہے۔ صرف ایک

نم اور تمہارے ساتھی ایسے باقی رہ گئے ہیں جنہوں نے بیعت

نہیں کی ہے۔ لہذا تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ اور تفریق سے

باز رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی وہی حال ہو جو عیال والوں کا

ہوگا۔



امیر معاویہ نے کہا کہ تم مصالحت کے لئے آئے ہو یا دھمکانے کے لئے؟ میں حرب کا بیٹا ہوں، جنگ سے نہیں ڈرتا۔ عدی اب مجھے خوب معلوم ہے کہ تم بھی عثمان کے قاتلوں کے ساتھ مشرک تھے انشا اللہ انہیں ظالموں کے ساتھ قتل بھی کئے جاؤ گے۔

یزید بن قیس نے کہا کہ:-

ہم صرف اس لئے آئے ہیں کہ وہاں کا پیغام یہاں پہنچا دیں۔ اور جو جواب ملے اس کو جا کر سنا دیں۔ لیکن اس ضمن میں آپ کے فائدے کی جو باتیں ہیں تھیر طلبی کے خیال سے ان کو بھی خدمت میں عرض کر دیں۔

حضرت علی جس درجہ اور رتبہ کے آدمی ہیں آپ جانتے ہیں۔ امت اسلامیہ ان کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو خلافت کے لئے قبول نہیں کر سکتی۔ ہم نے ایسا متقی، دینی سے بے تعلق اور اخلاق حسنہ کا جامع کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا۔ اس لئے ان کی مخالفت آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ ورنہ جماعت کی تفریق کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔

امیر معاویہ نے کہا کہ:-

حسن کو تم جماعت کہتے ہو وہ ہمارے ساتھ ہے علی (رضی اللہ عنہ)

کی اطاعت کو ہم جائز نہیں سمجھتے، انھوں نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا۔ امت میں تفریق نکالی۔ قاتلوں کو اپنے پاس پناہ دی۔ اگر تم یہ کہو کہ انھوں نے خلیفہ کو نہیں قتل کیا تو ہم اس کی تردید نہیں کریں گے بشرطیکہ وہ ان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں گے ہم ان سے قصاص لیکر پھر تمہاری بات مانیں گے۔

ثبث بن ربیع نے کہا کہ :-

معاویہ! کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم عمار بن یاسر کو تمہارے حوالہ کر دیں اور تم ان کو قتل کر دو۔

امیر معاویہ نے کہا کہ بے شک! میں تو ان کو حضرت عثمان کے غلام نائل کے قصاص میں بھی قتل کر دوں گا۔ حدود شرعیہ میں کیا رعایت۔ ثبث نے جواب دیا کہ یہ تو اس وقت تک ممکن ہے کہ جب تک ہزاروں آدمیوں کے سران کے کندھوں پر سے نہ اڑ جائیں اور سطح زمین باوجود اس وسعت کے تمہارے لئے تنگ نہ ہو جائے۔

امیر معاویہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو سطح زمین بہ نسبت میرے تمہارے لئے زیادہ تنگ ہو جائے گی۔ پہلی سفارت کی طرح اس کا بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا بلکہ فرقہ بندیوں کے دونوں میں اور نفرت بڑھ گئی۔

امیر معاویہ کی طرف سے عبید بن مسلمہ، شریک بن سمطہ، معن بن یزید

اور احنس بن شریق حضرت علی کے پاس گئے۔ حبیب نے کہا کہ :-  
 عثمان بن عفان خلیفہ برحق تھے اور کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے  
 آپ لوگوں نے ان کو قتل کر ڈالا۔ اگر آپ ان کے قتل میں شریک نہیں  
 تھے تو ان کے قاتلوں کو ہمارے حوالہ کر دیجئے۔ ہم ان سے قصاں  
 لیں اور آپ خلافت چھوڑ دیں۔ امت مشورہ عام سے جس کو چاہے  
 گی خلیفہ منتخب کرے گی۔

حضرت علی نے بگڑ کر کہا کہ چپ رہو۔ تم کو یہ کہنے کا کہاں سے حق حاصل  
 ہے کہ خلافت چھوڑ دو۔ چھوٹا منہ بڑی بات۔

حبیب نے کہا کہ پھر میں ہوں اور میدان۔ حضرت علی نے کہا کہ تم اور  
 تمہارا سارا لشکر جاؤ جو کچھ ہو سکے میرے مقابلہ کے لئے کرو۔

شرجیل نے کہا کہ میں بھی اگر کہوں گا تو وہی کہوں گا جو حبیب نے  
 کہا کیا اس کے سوا کوئی دوسرا جواب آپ دیں گے؟

حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں! پھر ایک طویل تقریر کی اور اللہ و رسول  
 کے ذکر کے بعد خلافت کا بیان شروع کیا اور کہا کہ :-

جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت ابو بکرؓ  
 خلیفہ ہو گئے۔ پھر انھوں نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمرؓ  
 کو ولی عہد کر دیا۔ یہ دونوں عادل اور نیک سیرت تھے۔ ہم کو ان

صرف یہ شکایت تھی کہ ہم رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار تھے  
 ہمارے ہوتے ہوئے خلافت ان کا منصب نہ تھا۔ مگر ان کی  
 خوبوں کی وجہ سے ہم خاموش رہے اور اس شکایت سے دور  
 گزرے۔ جب عثمان خلیفہ ہوئے تو ان سے چند امور ایسے  
 سرزد ہوئے جن کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے خلاف ہو  
 گئے اور ناراضی یہاں تک بڑھی کہ ان کو قتل کر ڈالا۔ ان کے بعد  
 میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی۔ میں نے انکار کیا۔ مگر لوگوں نے  
 اصرار کیا اور کہا کہ امت تمہارے سوا دوسرے شخص کو منظور  
 نہیں کر سکتی اور اگر تم بیعت نہیں لوگے تو مسلمانوں میں تفرقہ  
 پڑ جائے گا۔ ناچار میں اس کے لئے تیار ہو گیا۔ پہلے وہ دونوں  
 شخص (حضرت طلحہ اور زبیرؓ) یا جو بیعت کر لینے کے میرے  
 مقابلہ میں آئے امداب معاویہ مخالفت پر آمادہ ہیں جو سابقین  
 تو کجا مہاجرین میں سے بھی نہیں ہیں نہ اسلام کی خدمت میں ان  
 کا کوئی کارنامہ ہے بلکہ وہ اور ان کے باپ برابر اللہ و رسول  
 کی دشمنی کرتے رہے اور فتح مکہ کے دن مجبوراً اسلام میں داخل  
 ہوئے۔

ان سے اس مخالفت کو میں بعید نہیں سمجھتا۔ لیکن مجھ کو تیر



اس بات پر ہے کہ تم لوگ کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ اپنے  
 نبی کے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑتے ہو۔ اور ان کی اطاعت  
 سے منہ موڑتے ہو۔ میں تم کو کتاب اور سنت کی طرف بلاتا ہوں  
 اور بس ہمارا کام یہ ہے کہ باطل کو مٹائیں اور حق کا ساتھ دیں۔  
 شرجیل نے کہا کہ حضرت عثمان کا قتل ظلم تھا۔ جو شخص ان کے قاتلوں  
 سے قصاص نہ لے بلکہ ان کو پناہ دے۔ ہم اس سے بری ہیں۔ اس  
 کے بعد سب لوگ اٹھ کر چلے آئے۔ اور یہ سفارت بھی بے نتیجہ  
 رہی۔

ماہ محرم کے گزر جانے کے بعد حضرت علیؑ نے اپنی فوج میں اعلان  
 کرا دیا کہ مخالفین کو ہم نے ہر طرح پر سمجھایا اور حق کی طرف بلایا لیکن وہ  
 اپنی کسرشی سے باز نہ آئے۔ اسی لئے اب سوائے جنگ کے کوئی صورت  
 باقی نہیں رہی۔

رات بھر دونوں فریق صبح کی جنگ کے لئے تیاری کرتے رہے۔ یکم  
 صفر ۳۰ھ کو لڑائی شروع ہوئی۔ لیکن روزانہ ایک دو دو سے ادھر ادھر  
 سے نکل کر خفیف مقابلہ کر کے واپس چلے آتے تھے۔ ایک ہفتہ اسی  
 طرح گزر گیا۔ آٹھویں روز حضرت علیؑ نے عام حملہ کا حکم دیا۔ فریقین پوری  
 قوت کے ساتھ میدان جنگ میں آگئے اور ہولناک جنگ شروع ہوئی۔ یہی وہ

نامبارک تاریخ تھی جس میں اسلامی الفت اور سخت کا شیرازہ لوٹ گیا اور امت  
کی طاقت اور شوکت کو صدمہ پہنچا۔

دن بھر معرکہ کارزار گرم رہا۔ شام کو عراقی اور شامی دونوں فریق غیر مغلوب  
واپس آئے۔ دوسرے دن پھر جنگ ہوئی۔ شامیوں کے پیادے حملوں سے  
عراقیوں کے مہینہ نے شکست کھائی۔ حضرت علی نے میسرہ کو اپنا قرار گاہ  
بنایا وہاں سے بھی اہل مصر تائب نہ لاکر بھاگے۔ حضرت علی نے اشرے  
کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ موت سے بھاگ کر کہاں جاتے ہو۔ اشرے کے  
جوش دلانے سے مصری پھر پلٹے اور ایسا سخت حملہ کیا کہ شامیوں کی  
صفیں الٹ دیں۔ عصر کے وقت قلب تک بڑھ گئے۔ اشرے تو بالکل امیر  
معاویہ کے محافظوں تک پہنچ گئے۔ امیر معاویہ نے بھاگنے کا ارادہ کیا لیکن  
کچھ سمجھ کر رک گئے۔ نہایت خونریز جنگ ہوئی۔ اس میں عثمان بن مالک مقتول  
ہوئے۔ شام کو بھی لڑائی بند نہ ہوئی بلکہ فادسیہ کی طرح رات بھر دونوں فریق  
مصرف پیکار رہے۔ صبح کے وقت اشرے نے شامیوں کے مہینہ پر حملہ کیا۔  
حضرت علی سلسلہ وادان کی مدد کے لئے دستے پر دستے بھیجتے تھے اور  
وہ شامیوں کو دباتے ہوئے برابر آگے بڑھ رہے تھے کہ یکایک بیڑوں پر  
قرآن اٹھا کر اہل شام پکارنے لگے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں کتاب اللہ  
ہے۔ اہل عراق اگر فنا ہو گئے تو مشرقی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا۔

وہ شامی مٹ گئے تو مغربی جمالیوں کی مدافعت کے لئے کہاں سے لوگ آئیں گے۔  
 عراقیوں نے قرآن دیکھ کر ہاتھ روک لیا اور کہا کہ ہم کو کتاب اللہ کا فیصلہ  
 منظور ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے بندو! تم حق پر ہو۔ اپنا ہاتھ نہ روکو۔  
 فتح میں اب دیر نہیں ہے۔ معاویہ، عمرو بن عاص، ابن ابی معیط، عبید بن  
 سلمہ، ابی ابن سرح اور ضحاک بن قیس ان سب کو میں بچپن سے جانتا ہوں  
 لڑکوں میں یہ سب سے بڑے لڑکے تھے اور جوانوں میں بدترین جوان۔  
 انھوں نے یہ قرآن اس نیت سے ہرگز نہیں اٹھائے ہیں کہ اس پر عمل  
 کرنے کے لئے تیار ہیں بلکہ یہ ان کی ایک چال ہے جس سے تم کو قریب  
 بیجا چاہتے ہیں کہ تم لڑائی سے باز رہو۔

اہل عراق بولے کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتب اللہ کی طرف  
 بلائے اور ہم انکار کر دیں۔ مسعر بن مذکحل اور اس کے ہمراہیوں نے کہا کہ آپ  
 کتاب اللہ کے فیصلے کو منظور کیجئے ورنہ ہم ساتھ چھوڑ دیں گے۔

انسترا بھی نگ شامیوں کو دھکیلتے آگے بڑھے چلے جاتے تھے لوگوں  
 نے حضرت علی سے کہا کہ ان کو واپسی کا حکم دیجئے۔ انھوں نے کہلا بھیجا۔

لیکن لشتر نے جواب دیا کہ یہ واپسی کا وقت نہیں ہے۔ فتح قریب آگئی ہے  
 عراقیوں نے حضرت علی سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے درپردہ لڑائی  
 کا حکم دے رکھا ہے اگر واپس نہیں بلائے تو آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرینگے

جو ہم نے عثمان کے ساتھ کیا۔ حضرت علی نے پھر اشتر کے پاس حکم بھیجا کہ جلد  
 آجاؤ اور ہر فتنہ برپا ہو گیا۔ مجبوراً ان کو میدان چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔  
 جب لڑائی بند ہو گئی تو حضرت علی نے اشعث بن قیس کو بھیجا کہ معاویہ  
 کا مقصد دریافت کریں۔ امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ  
 ایک بیچ تمہاری طرف سے اور ایک بیچ ہماری طرف سے مقرر ہو وہ دونوں  
 کتاب اللہ کی رو سے ہماری اور تمہاری نزاع کا فیصلہ کر دیں اور ہر فریق اور  
 کے فیصلہ پر رضامند ہو جائے۔ اشعث نے کہا یہ بہت معقول تجویز ہے  
 وہاں سے واپس آکر حضرت علی کو اس کی اطلاع دی۔ عراقیوں نے ایک  
 زبان ہو کر کہا کہ یہ صورت نہایت مناسب ہے۔

اشعث وغیرہ روئے عراق نے اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری امیر کو  
 کو بیچ منتخب کیا۔ حضرت علی کو معلوم تھا کہ وہ ان کے موافق نہیں ہیں۔ وہ  
 عبداللہ بن عباس کو مقرر کرنا چاہتے تھے اس لئے بہت اصرار کے ساتھ  
 کہا کہ تم لوگوں نے پہلے میری خلاف ورزی کی اور جنگ کو بند کر دیا مگر اس  
 میں مخالفت نہ کرو لیکن عراقیوں نے عبداللہ بن عباس کو پسند کیا اور کہا  
 کہ وہ اور آپ تو ایک ہی ہیں۔

اہل شام کی جانب سے عمرو بن عامر مقرر ہوئے۔

تالیسی نامہ

دونوں اطراف کے فریقین سے عہد لکھوایا کہ جو فیصلہ ہو



کتاب اللہ کی رو سے کریں گے وہ اس کو مانیں گے اور جو نہ مانے گا اس کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں گے۔ تا فیصلہ جنگ بند رہے گی۔ فریقین آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں آئیں جائیں۔ بچوں سے یہ پیمان لیا گیا کہ نیک نیتی سے امت کی مصالحت کو پیش نظر رکھ کر معاملہ کو حل کریں گے اور امت میں باہمی جنگ اور تفریق نہ پیدا ہونے دیں گے۔ فیصلہ کی میعاد رمضان کے مہینے میں رکھی گئی اور بچوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر مزید مدت کی ضرورت سمجھیں تو اور بھی تاخیر کر سکتے ہیں۔ ان کو جس شخص کی شہادت کی ضرورت ہوگی وہ ان کے طلب کرنے پر بلا دیا جائیگا اور شہادتیں قلمبند کی جائیں گی جو متفقہ فیصلہ ہوگا اس پر فریقین کو عمل کرنا ہوگا یہ فیصلہ کا مقام شام اور عراق کے وسط میں رہے۔ اگر بیچ یہ چاہیں گے کہ ان کے فیصلہ کے وقت مجمع عام نہ ہو تو صرف خاص خاص اشخاص کو اس موقع کے لئے طلب کریں اگر قضائے الہی سے کوئی بیخ قبل از فیصلہ گزر جائے تو اس کے بجائے اس کافرین دوسرے شخص کو منتخب کر کے بھیج دے گا۔ یہ عہد نامہ ۱۱ صفر ۳۳ھ میں لکھا گیا اور اس پر فریقین کے نام ثبت کئے گئے۔

اس طرح پر اس تباہ کن جنگ کا خاتمہ ہوا جس میں نو سے ہزار جانناز مسلمان مقتول ہو گئے۔ یہ وہ تعداد ہے کہ عہد نبوی سے لیکر اس واقعہ تک جس قدر فتوحات ہوئی تھیں ان سب میں ملا کر بھی اتنے مسلمان کام نہ لائے تھے

حضرت علی اور امیر معاویہ کے حالات کا غور سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ طرفین کے خیالات میں بے حد تضامین تھیں۔ حضرت علی ذاتی فضیلت سابقہ اسلامی و قرابت رسول کی وجہ سے اپنی حق خلافت کو اس قدر مزاح سمجھتے تھے کہ شیخین نے ان کے خیال میں دیدہ و دانستہ اس کو نظر انداز کیا تھا اور معاویہ کو تو وہ طلحہ بن طلحہ سمجھتے تھے جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ کی دشمنی کی اور فتح مکہ کے بعد مجبوراً اسلام میں داخل ہوئے۔ ایسی حالت میں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے مطالبہ کی وجہ سے خلافت سے دست بردار ہو جائیں۔

ادھر معاویہ اپنے آپ کو مکہ کے سب سے بڑے رئیس ابوسفیان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے قریش کا ایک بڑا رکن سمجھتے تھے۔ خلفاء سابقین کے عہد میں وہ معتمد علیہ تھے اور عزت و شوکت کے ساتھ اس صوبے کے والی تھے جو رومیوں کے مقابلہ کی وجہ سے اسلامی ممالک میں خاص اہمیت رکھتا تھا۔ انھوں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت علیؑ کی خلافت میرے لئے موجب اہانت ہوگی۔ کیونکہ سب سے پہلا کام جو انھوں نے کیا وہ میری معزولی تھی اس لئے مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور ان کو ایسے چند شہادت بھی نظر آئے جن سے اس مخالفت کی گنجائش مل گئی۔ انھوں نے کہا۔

۱۱ حضرت علی ان باغیوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں جنہوں نے حضرت

## عثمان کو قتل کیا۔

(۲) اکثر صحابہ کبار نے جو مدینہ میں موجود تھے ان کی بیعت سے انکار کیا۔

(۳) وہ امر اردو سارا امت و اعیان قریش جو مدینہ سے باہر تھے اس بیعت

میں شریک نہیں ہوئے نہ ان سے مشورہ لیا گیا۔

(۴) انہوں نے خلیفہ مظلوم کے قاتلوں کو جو باغی ہیں اور جن سے قصاص

لینا فرض ہے اپنے لشکر میں پناہ دی ہے اور عہدے سے ہٹا دیے ہیں۔

ایسے دو شخص جو ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھتے ہوں کہ یونکر باہم

صلح کر سکتے تھے۔

علاوہ بریں دونوں طرف سے جو سفیر آئے گئے انہوں نے بھی عقل

سے کم اور جذبات سے زیادہ کام لیا۔ کسی نے کوئی ایسا طریقہ نہیں سوچا جس

پر دونوں فریق متفق ہو جاتے اور امت کے سر سے یہ وبال ٹل جاتا۔

ان سب پر مزید یہ کہ عراقی فوج میں سبانی جماعت موجود تھی جو کسی

طرح پر باہمی مصالحت کو پسند نہیں کرتی تھی بلکہ ایسی صورتیں نکالتی تھی۔

جن سے جنگ کی آگ مشتعل ہو جاتے۔

عہد نامہ ثالثی کے لکھے جانے کے بعد امیر معاویہ اپنی فوج لیکر

خوارزم دمشق کو روانہ ہو گئے۔ ادھر عراقیوں میں جس وقت اشعث

بن قیس اس عہد نامہ کو سنانے کے لئے نکلے تو بنی تمیم کے ایک سردار عروہ

بن ادیہ کے کما کہ قرآن کے فیصلہ میں تم نے آدمیوں کو کیوں ثالث مانا ہم  
 سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں مانیں گے اور پھر تلوار کھینچ کر اشعث پر وار  
 کیا۔ ان کے گھوڑے پر ضرب آئی۔ یہ دیکھ کر ان کے اہل قبیلہ بھی آ کر جمع  
 ہو گئے۔ قریب تھا کہ باہم کشت و خون ہو جائے لیکن لوگوں نے بیچ میں پڑ کر دیکھا  
 جب فوج وہاں سے روانہ ہوئی تو راستہ میں بھی ان میں جھگڑے جاری رہے۔  
 اہل عراق جس وقت کوفہ سے نکلے تھے سب منخر اور متفق تھے لیکن  
 جب صفین سے واپس آئے تو باہم دشمن اور مخالف تھے۔ ہر ہر منزل میں  
 ان میں لڑائی امد بزدبانی ہوتی تھی اور کبھی کبھاروں سے مار پیٹ بھی ہو جاتی  
 تھی۔

خواجگ کہتے تھے کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں مداخلت کی۔  
 شیعہ جواب دیتے تھے کہ تم نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب کوفہ کے قریب  
 آتے تو بارہ ہزار آدمی فوج سے الگ ہو کر مقام حرورہ میں جا کر خیمہ زن ہوئے  
 اور اعلان کیا کہ ہمارا امیر ثابت بن ربیع ہے۔

یہ وہی شخص ہے جو حضرت علیؑ کی طرف سے سفیر بن کر امیر معاویہ کے  
 پاس گیا تھا اور ان سے سختی کے ساتھ پیش آیا تھا کہ کیوں حضرت علیؑ کے  
 ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔

عبداللہ بن عباس ان کی فہمائش کے لئے بھیجے گئے۔ ان لوگوں



نے ان کے ساتھ بحث شروع کر دی۔ پھر حضرت علیؑ بھی بیچ گئے اور پوچھا کہ تم لوگ کیوں ہماری جماعت سے خارج ہو گئے۔

خوارج: اس لئے کہ آپ نے اللہ کے حکم میں انسانوں کو ثالث بنایا۔ حضرت علیؑ: کیا میں نے تم کو پہلے اس ثالثی کے قبول کرنے سے منع نہیں کیا تھا تم لوگوں نے تو ثوردا صرار کر کے مجھے اس پر مجبور کیا۔

علاوہ بریں بیچوں سے یہ شرط کی گئی ہے کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے لہذا قرآن کے حکم پر چلنے میں کیا قباحت ہے۔

خوارج: مسلمانوں کے خون کے معاملہ میں اشخاص کو ثالث بنانا

کہاں سے روا ہے؟

حضرت علیؑ: ہم نے اشخاص کو کب حکم مانا ہے۔ ہمارا فیصلہ تو قرآن پر ہے۔ اشخاص اسی کی رو سے حکم دیں گے۔

خوارج: پھر اس فیصلہ کے لئے مدت مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

حضرت علیؑ: تاکہ اتنے عرصہ میں امت اس سے واقف ہو جائے لوگوں

کو غور و فکر کا موقع مل سکے اور صحیح راستہ پر آجائیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بیجا نہیں ہوا ہے۔ تم لوگ ہمارے ساتھ شہر میں چلا اپنے اپنے گھروں میں قیام کرو۔

خوارج: ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس معاملہ میں ہمارا ثالثی قبول کرنا کفر تھا ہم

اس کفر سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر تائب ہو جائیں تو ہم ساتھ چلنے کے

لئے تیار ہیں۔

حضرت علیؑ: صرف چھ مہینے کی بات ہے، شہر میں چلو، اس دور میں ان میں خراج کی وصولی بھی ہو جائے گی اور سواریاں فریہ اور توہانا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دشمن کے مقابلہ کے لئے نکلیں گے۔

انگریز بڑی مشکلوں سے ان کو گرفتار میں لائے۔

اس فرقہ کے نظریہ کی توضیح یہ ہے کہ حضرت علیؑ خلیفہ برحق تھے ان کی بیعت واجب تھی۔ جن لوگوں نے اس سے انکار کیا، وہ باغی ہیں کیونکہ اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں جن کے لئے قرآن میں صریح حکم قتل کا موجود ہے۔ اس لئے معاویہ کی جماعت، از روئے قرآن واجب القتل ہے، لہذا ان کے ساتھ مصالحت کرنے اور ان کے معاملہ میں اشخاص کو ثالث بنانے کے کیا معنی! اور چونکہ حضرت علیؑ اس جوہم کے ترکب ہوئے کہ انہوں نے حکم قرآنی میں اشخاص کو ثالث بنایا اس لئے ان کی خلافت ناجائز ہے اور ان کی جماعت اور معاویہ کی جماعت دونوں یکساں ہیں۔

خراج کی اس دلیل میں منطقی غلطی ہے، ان کا یہ کہنا کہ جو لوگ اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں ان کے لئے قرآن میں حد مقرر ہے بیشک صحیح ہے لیکن یہ اسر کہ اہل شام اسی جوہم کے ترکب ہیں، ثبوت کا محتاج ہے کیونکہ ان لوگوں کا دعویٰ خود حضرت علیؑ کی خلافت کے متعلق تھا کہ آیا وہ منعقد ہو

ہوتی ہے یا نہیں اور یہ ایسا دعویٰ ہے کہ اس کے فیصلے کے لئے کسی کو ثالث مقرر کرنا ناجائز نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ شخص کو اللہ کے حکم میں فیصلہ کا اختیار دیا گیا۔ کیونکہ ان کے ثالث بننے کا منشا صرف اس قدر ہے کہ وہ متعین گروہوں کو اللہ کا حکم ان پر صادق آتا ہے یا نہیں۔ باقی رہا خوارج کا یہ اعتراض کہ ثالث مان لینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کو خود اپنی امامت میں شک تھا اور ایسے مشکوک امر میں ناحق انھوں نے مسلمانوں کی خونریزی کرانی۔ تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ صاحب حق کا جب فریق ثانی انکار کرے تو اس کے لئے اپنے حق کے اثبات کے واسطے بجز اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ کسی عدالت کی طرف رجوع کرے۔

بہر صورت اس جماعت جدید یعنی خادموں نے بے بنیاد مقدمات ترتیب دیکر بالکل غلط نتیجہ نکالا اور امت کی مصیبت نہیں اور اضافہ کر دیا۔ اب مسلمانوں میں بجائے دو کے تین میامی فرقے ہو گئے اور حضرت علیؑ کو شاہیوں کی بیرونی جماعت کے ساتھ خود اپنی جماعت کے ان اندرونی مخالفوں کا بھی ماننا کرنا پڑا کیونکہ یہ ان کے وہی شیعہ تھے جو کل ننگ ان کو افضل المسلمین اور المرئین تسلیم کرتے تھے اور آج ان کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔

جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو حضرت علیؑ نے ابو موسیٰ فیصلہ ثالثی اشعری اور شریح بن ہانی کو چار سو آدمیوں کے ہمراہ مقام فیصلہ

کی طرف روانہ کیا۔ عبداللہ بن عباس اس قافلہ کے پیش نماز تھے۔

فہام سے امیر معاویہ نے بھی عمرو بن عاص کو اسی قدر آدمیوں کے ساتھ بھیجا۔ یہ دونوں جماعتیں دومتہ الجندل کے قریب مقام ادرج میں مجتمع ہوئیں۔

امیر معاویہ کی طرف سے قاصد خطوط لے کر سلسلہ دار عمرو بن عاص کے پاس آیا کرتے تھے جن کے مضمون سے ان کے صوا کوئی دوسرا واقف نہیں ہوتا تھا اور نہ پوچھتا تھا کہ کیا مرسلہ آیا ہے۔ لیکن ادھر سے حضرت علی کا جب کوئی خط عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچتا تو اہل عراق مجتمع ہو کر ان سے سوال کرتے کہ امیر المؤمنین نے کیا لکھا ہے اور پھر اس کو مشہور کر کے لگروہ نہ بتانے تو طرح طرح کے قیامات لڑاتے اور ان پر بحثیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس ان کے اس شور و شعب سے تنگ تھے۔

اس موقع پر یوسف بن حارث محزومی اور مغیر بن شعبہ موجود تھے۔

دونوں نالغوں نے باہم ملکر مسئلہ زیر بحث پر گفتگو کی جو کچھ تاریخی حواشی اس گفتگو کے متعلق ہم تک پہنچی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے:-

عمرو بن عاص: کیا آپ کو اس امر کا یقین ہے کہ حضرت عثمان مظلوم قتل ہوئے ابو موسیٰ: بے شک۔



عمر دین عاص: یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے قصاص کے ولی اور وارث ہیں۔

الولوسی: ہاں!

عمر دین عاص: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔

وَمَنْ قُتِلَ مُظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا۔

جو شخص ظلم سے مارا جائے اس کے دل کو ہم نے صاحب اختیار کیا ہے۔

پھر آپ کو امیر معاویہ کے خلیفہ بننے سے کیا شے مانع ہے۔ خاندان

قریش میں ان کو جو شرف حاصل ہے وہ ظاہر ہے۔ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ

اسلام کی ابتدائی کوششوں میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے تو اس کا جواب

یہ ہے کہ وہ خلیفہ مظلوم کے ولی ہیں۔ بجز سیاست میں ماہر اور حسن تدبیر میں

شہرہ آفاق۔ ان سب پر مزید یہ کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد صحابی اور کاتبِ وحی ہیں۔

یہ یقین رکھئے کہ اگر وہ خلیفہ ہو گئے تو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے

کہ کوئی دوسرا خلیفہ نہیں کر سکتا۔

الولوسی: عمر! اللہ سے ڈرو۔ خلافت کے لئے دین اور تقویٰ کی فضیلت

دیکھا رہے۔ محض خاندانی نزاکت سے کام نہیں چلتا۔ علاوہ بریں اگر اسی

پر نظر رکھی جائے تو خود حضرت علی قریش میں اس لحاظ سے سب سے

افضل ہیں۔ ان کے سوا دوسرا کون خلیفہ ہو سکتا ہے۔ امیر معاویہ خلیفہ مقرر  
 کے خون کے ذریعہ ضرورت میں ممکن امت کی ولایت کا استحقاق ان کو کہاں سے  
 حاصل ہوتا۔ ابھی تک مہاجرین و انصار کے ہوتے ہوئے معاویہ  
 خلیفہ نہیں ہو سکتے۔

تم نے ان کے سوا کسی طرف جو اشارہ کیا تو اس کے جواب میں قسم  
 کھانا ہوں کہ اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی اگر نکل جائے تب  
 بھی میں ان کو خلیفہ نہیں بناؤں گا اور نہ سنت نہیں لوں گا۔ ہاں اگر تمہاری  
 رائے ہو تو لاؤ حضرت عمر بن خطاب کے نام کو زندہ کریں اور ان کے بیٹے  
 عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنائیں۔

عمر بن عاص: اگر آپ خلافت کے لئے عبداللہ بن عمر کو پسند کرتے  
 ہیں تو میرے بیٹے عبداللہ کو کیوں منتخب نہیں فرماتے۔ اس کی فضیلت  
 اور صلاحیت سے تو تمام امت واقف ہے۔

ابو موسیٰ: بے شک تمہارا بیٹا بھی اس کا مستحق ہو سکتا تھا لیکن تم نے  
 اس کو اس لڑائی میں شریک کر کے فتنہ میں آلود کر دیا۔

اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دونوں بیٹے اس بات پر متفق ہو گئے  
 تھے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ میں سے کسی کو خلافت نہ دی جائے لیکن کون  
 خلیفہ ہو اس میں اختلاف تھا۔ بلا آخر یہ طے پایا کہ اس امر کو امت پر چھوڑ دیا

جائے وہ جس کو چاہے منتخب کرے۔

اب بجز اس کے اور کچھ باقی نہیں رہا کہ مجمع میں اس فیصلہ کا اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ سب لوگ مجتمع ہوئے اور یہ دونوں ثالث وہاں گئے۔ عمرو بن عاص، ابو موسیٰ کی بہت تعظیم کرتے تھے اور ہر بات میں ان کو مقدم رکھتے تھے۔ اعلان کے لئے بھی حسب معمول انھیں کو کھڑا کیا۔ انھوں نے کہا کہ :-

جہاں تک ہم نے غور کیا امت کی فلاح کے لحاظ سے ہم کو یہی مناسب معلوم ہوتا ہے اور اسی پر میری اور عمرو بن عاص کی رائے متفق ہوئی کہ حضرت علی اور معاویہ دونوں کو چھوڑ کر مسلمان جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ اس لئے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان دونوں کو معزول کیا اور امت کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ جس کو مناسب سمجھے اپنا امیر بنائے۔

اس کے عمرو بن عاص کھڑے ہوئے اور کہا کہ :-

جو کچھ فیصلہ ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ حضرت علی کی معزول سے میں بھی متفق ہوں لیکن معاویہ کو قائم رکھتا ہوں کیونکہ وہ خلیفہ مقتول کے ولی اور ان کی عائشہ کی جانشینی کے زیادہ مستحق ہیں۔

یہ سنکر ابو موسیٰ نے ان کی مخالفت کی اور دونوں میں باہم سخت کلامی  
ہوئی۔ عام مورخوں کا بیان یہی ہے۔

لیکن مسعودی نے لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات نے زبانی نہیں اعلان  
کیا تھا۔ بلکہ فیصلہ لکھا تھا کہ جو مجمع میں سنایا گیا۔ اس میں حضرت علی اور معاویہ  
دونوں کی مسزولی تھی اور بچوں میں باہم کوئی اختلاف نہیں واقع ہوا تھا۔  
یہ روایت قرین قیاس ہے۔ کیونکہ تالیفی نامہ جب لکھا گیا تھا اور  
شہادتیں قلمبند کی گئی تھیں تو فیصلہ زبانی ہونے کے کیا معنی؟

نتیجہ فیصلہ | جس وقت اس تالیفی کا اقرار نامہ لکھا گیا تھا اسی وقت ہر  
عقل مند آدمی سمجھ سکتا تھا کہ اس کا کوئی مفید نتیجہ نہیں نکلے گا۔  
کیونکہ شامیوں کا قرآن اٹھانا مصالحت کی غرض سے نہیں بلکہ بطور ایک جنگی  
تدبیر کے تھا۔ درنہ واقعی اگر ان کہ فیصلہ منظور ہوتا تو قبل از جنگ جب سفیر  
دونوں طرف سے آتے جلتے تھے اور صلح کی گفتگو جاری تھی وہ کتاب اللہ  
کہ پیش کرتے۔

دوسرا فرق بھی اس پر غمبشی سے راضی نہیں ہوا تھا بلکہ مجبوراً اس کو  
تسلیم کرنا پڑا تھا اس لئے یا لطیف تالیفی کا فیصلہ فریقین کے نزدیک زیادہ  
اہمیت نہیں رکھتا تھا۔

حضرت علی نے اس فیصلہ کو قرآن کے خلاف قرار دیکر نہیں تسلیم کیا۔



لیکن امیر معاویہ خوشی سے اس پر راضی ہو گئے۔ کیونکہ کم سے کم ان کی رُو سے حضرت علیؑ تو خلافت سے معزول کئے گئے تھے اور امت کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس کو چاہے خلیفہ منتخب کر لے اور وہ جانتے تھے کہ امت کا ایک بڑا حصہ میرے زیر اثر ہے اس لئے ان کو اپنے خلیفہ ہونے کی امید قوی ہو گئی۔

حضرت علیؑ نے جاپا کہ اہل شام پر لشکر کشی کر میں لیکن عمارؓ کا معاملہ بیچ میں سدناہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب انھوں نے شرح بن ہانی کو فیصلہ ثالثی کے موقع پر ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا تو غلامیوں نے مخالفت کی۔ وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ثالثی کے معاملہ کو جو ہم نے کفر سمجھا ہے تو حضرت علیؑ بھی اس میں ہمارے ہم خیال ہیں لیکن اس جماعت کے بیچنے سے ان کو یقین ہو گیا کہ وہ مخالف ہیں۔ اس لئے شورش پر آمادہ ہو گئے۔ انھوں نے عبداللہ بن وہب کے مکان میں مجتمع ہو کر اس کو اپنا امیر مقرر کیا اور یہ طے کیا کہ ہم اس شہر کو جہاں کے لوگ ظالم ہیں چھوڑ کر باہر نکل جائیں۔ چنانچہ وہ متفرق طور پر نکلے اور حبر نهران پر سب کے سب مجتمع ہو گئے۔ وہاں سے بصرہ وغیرہ دوسرے مقامات کے لوگوں کو بھی اپنے خروج کی اطلاع دی۔

کوڈ کے بقیہ لوگوں نے حضرت علیؑ کے پاس آکر کہا کہ ہم آپ کے مطیع ہیں جو حکم دیں گے اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرت علیؑ نے ان کے

ماتنے تقریر فرمائی اور کہا کہ بچوں نے فیصلہ قرآن کے خلاف کیا ماب تم لوگ  
شام کی روانگی کے لئے تیار ہو جاؤ۔

اس کے بعد خوارج کو لکھا کہ تم بھی ہماری جماعت میں آ جاؤ۔ انہوں  
نے جواب دیا کہ یہ لڑائی آپ اپنی ذات کے لئے لڑنا چاہتے ہیں نہ کہ حق کے  
لئے۔ اس لئے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس جواب سے ان کی طرف  
سے مایوسی ہو گئی۔ چاہا کہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ کر شام کی طرف چلیں۔  
کیونکہ سے باہر نکل کر نخلہ میں خیمہ زن ہوئے۔ والی بصرہ عبداللہ بن عباس  
اور امیر مدائن کو لکھا کہ وہ فوجیں بھیجیں۔ چنانچہ مختلف مقامات سے تقریباً  
ساتھ ہزار لشکر جمع ہو گیا۔

اس کے بعد خبر ملی کہ خوارج لوگوں کو اس فوج میں جانے سے روکتے  
ہیں اور کئی آدمیوں کو انہوں نے قتل بھی کر ڈالا حضرت علی نے ان کے  
پاس ایک قاصد بھیجا۔ انہوں نے اس کو بھی مار ڈالا۔ امراء فوج نے کہا کہ اگر  
ان لوگوں کو یہاں چھوڑ کر ہم شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے  
گھروں کو لوٹ لیں گے لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کا فیصلہ کر دیا جائے  
حضرت علی نے ان کی رائے کو مناسب سمجھ کر اسی طرف رخ کیا۔ وہاں  
پہنچ کر ان سے کہا کہ تمہاری جماعت کے جن لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو  
قتل کیا ہے ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ دوسروں سے ہم کو سروکار نہیں اس پر

خارجیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب نے ان کو قتل کیا ہے اور ہم سب ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے ہر خیال ان کو نصیحت کی لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر حضرت ابوالیوب انصاری کو حکم دیا کہ امان کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اعلان کر دیا کہ بجز ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا ہے جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آجائے گا یا کوئی غیر کسی شہر کی طرف ہلا جائے گا اس کو امان ہے۔ خارجیوں میں سے بہت سے لوگ جھنڈے کے نیچے آ گئے اور کچھ لوگ کوفہ میں داخل ہو گئے۔ ابن وہب کے ساتھ صرف ۲۸ آدمی رہ گئے۔ ان کے ساتھ جنگ ہوئی۔ ان میں سے اکثر مارے گئے۔ چار سو زخمی ہوئے جو میدان میں پڑے ہوئے تھے ان کو حضرت علی نے اٹھوا کر ان کے رشتہ داروں کے سپرد کیا کہ کوفہ میں لے جا کر علاج کریں۔

اس فتح کے بعد تمام کی زبانوں کا حکم دیا لیکن لوگوں نے کہا کہ ہمارے تیرا اس لڑائی میں ختم ہو چکے۔ تلوار میں کند ہو گئیں اور نیزے خراب ہو گئے چند روز قیام کیجئے تاکہ ہم اپنے اصلے ٹھیک کرا لیں۔ ممکن ہے کہ اس درمیان میں اور لوگ بھی آکر شریک ہو جائیں جن سے ہماری تعداد اور قوت میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت علی واپس آکر مقام نخیلہ میں کچھ دنوں کے لئے ٹھہر گئے اور ساز و سامان کی تیاری کا حکم دیا۔

اہل عراق چھپ چھپ کر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے آئے اور  
 بجز دو سارو امراء فرج کے بہت کم لوگ وہاں رہ گئے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت  
 علی بھی کوفہ میں آگئے۔ امراء اور سرداران قبائل کو جمع کر کے شام کی لشکر کشی  
 کے متعلق مشورہ لیا۔ ان میں سے بعضوں نے مخالفت کی۔ بعضوں نے  
 بیماری کا عذر کیا اور کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے غوشی سے رضامندی  
 ظاہر کی۔

حضرت علی روزانہ پڑجوش شعلے سناتا کہ اہل کوفہ کو ابھارتے تھے۔  
 لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ زبان سے چلنے کا اقرار کر لیتے اور وقت  
 پر گھروں میں بیٹھ جاتے۔ آخر جب دیکھا کہ یہ لوگ تیار نہیں ہوتے تو واپس  
 ہو کر شام کی لشکر کشی کا ارادہ ترک کر دیا۔

اہل شام کی حالت اس کے برعکس تھی۔ وہاں کی تمام فرج تابع اور  
 یکساں اور یک زبان تھی۔

امیر معاویہ کی نظر میں اس وقت سب سے اہم مسئلہ مصر کا تھا۔ حضرت  
 عثمان کے قتل کے بعد محمد بن حذیفہ نے وہاں اپنا تسلط جما لیا تھا۔ جب  
 حضرت علی خلیفہ ہوئے تو انھوں نے آغاز ۳۶ھ میں قیس بن سعد کو  
 جو ان کے خاص طرفداروں میں تھے مصر کا والی مقرر کیا۔ قیس ایک  
 بیدار مغز اور عقلمند امیر تھے۔ انھوں نے اہل مصر کو اپنے قابو میں کر لیا البتہ



ایک جماعت جس کے سربراہ مسلمہ بن مخلد انصاری تھے اور جو حضرت عثمان کے قصاص نہ لینے کی وجہ سے حضرت علی کی خلافت کو ناجائز سمجھتی تھی۔ قیس کے خلاف ہو کر مقام خربت میں آ کر مجتمع ہو گئی۔ قیس نے کہلا بھیجا کہ میں تم لوگوں کو بیعت پر مجبور نہیں کروں گا اور نہ تمہارے وطن سے بند کروں گا بشرطیکہ ان کے ساتھ رہو۔

امیر معاویہ مصر میں قیس کی موجودگی کو اپنے حق میں مفر سمجھتے تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ ایک طرف سے عراق کی فوجیں آگئیں اور دوسری طرف سے مصر کی توہم بیچ میں پڑ جائیں گے اور دونوں سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لئے انھوں نے قیس کو اپنا طرفدار بنانے کے لئے ایک خط لکھا اور اسے حسب منشا جواب نہ آیا۔ پھر دوسرا خط لکھا۔ قیس نے صاف لکھ دیا کہ مجھ سے کسی قسم کی توقع نہ رکھو۔

امیر معاویہ نے باوجود اس جواب کے پھر بھی اہل شام میں یہ مشہور کیا کہ قیس ہمارے حامی ہیں۔ انھوں نے خطوط میں ہماری خیر خواہی کا اظہار کیا ہے۔ تم لوگ ان کی طرف سے مطمئن رہو۔ دیکھو جو ہمارے حامی خربت میں مقیم ہیں ان کے ساتھ انھوں نے کیسا اچھا برتاؤ کیا ہے۔ نہ ان پر کسی قسم کی سختی کی ہے نہ ان کے وطنوں کو بند کیا ہے۔

جب اس خبر کا پرجا پھیلا تو شام میں حضرت علی کے جو جاسوس تھے

انہوں نے ان کو اس سے مطلع کیا۔ حضرت علی کے دل میں قیس کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی۔ حکم لکھا کہ اہل خربتبا سے جنگ کرو۔

قیس نے کہا کہ ان کی تعداد دس ہزار ہے اور ان میں زیادہ تر اعیان و شرفاء مصر ہیں۔ میں نے جس طریقہ پر ان کو رکھ چھوڑا ہے یہی مناسب ہے اس میں کوئی ضرر نہیں۔ اور جنگ کی صورت میں ایک فتنہ عام برپا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ ایک تو خود وہ لوگ اس نیتاں کے شیر ہیں دوسرے معاویہ ان کی مدد کریں گے۔

حضرت علی نے ان کے عذر کو قبول نہیں کیا اور لڑنے کی تاکید لکھی۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر میرے اوپر کسی قسم کی بدگمانی ہے تو میں امارت چھوڑتا ہوں کسی دوسرے کو یہاں بھیج دیجئے۔۔۔ محمد بن ابوبکر وہاں کے امیر بنائے گئے۔ انہوں نے اہل خربتبا کو لکھا کہ تم لوگ بیعت کر لو ورنہ ملک مصر سے نکلی جاؤ۔ وہ لوگ جنگ کے تیار ہو گئے۔ اسی دوران میں معرکہ صفین شروع ہو گیا۔ اس لئے دونوں فریق نتیجہ کے انتظار میں خاموش رہے۔ جب اہل خربتبا کو صفین سے حضرت علی کی واپسی کا حال معلوم ہوا تو وہ محمد بن ابوبکر کے مقابلہ میں آگئے اور مصری فوجوں کو شکست پر شکست دینی شروع کی۔ حضرت علی نے یہ حال سن کر اشتراک جو جزیرہ کے والی تھے مصر کی ولایت کا فرمان بھیجا۔ وہ روانہ ہوئے لیکن بلاتہمیں

مقام قلزم میں پہنچ کر انتقال کر گئے اور مصر کی حکومت محمد بن ابوبکر ہی کے ہاتھ میں رہی۔

فیصلہ ثالثی کے بعد امیر معاویہ نے اپنی خلافت کی اہل شام سے بیعت لے لی۔ اس سے ان کی عظمت اور قوت بڑھ گئی۔ انھوں نے اہل خرتبہ کے سرداروں مسلمہ بن مخلد اور معاویہ بن خدیج کو لکھا کہ تم لوگ دل میں ہراس نہ لانا۔ میں تمہاری امداد کے لئے تیار ہوں۔ ان لوگوں نے لکھا کہ ہم مقابلہ میں جھے ہوئے ہیں۔ یہاں کا والی ہم سے خود خوف زدہ ہے۔ لیکن مدد جلد بھیجئے۔ امیر معاویہ نے عمرو بن عاص فاتح مصر کو چھ ہزار فوج دے کر روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انھوں نے محمد بن ابی بکر کو لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ سے تم کو کوئی صدمہ پہنچے۔ لیکن وہ مقابلہ کے لئے نکلے اور شکست کھا کر کسی کے گھر میں چھپ رہے۔ معاویہ بن خدیج نے ان کو پکڑ لیا اور قتل کر ڈالا۔ بعض کہتے ہیں کہ آگ میں جلا دیا۔ محمد بن ابی بکر نے حضرت علی کو امداد کے لئے لکھا تھا۔ وہ بڑی کوشش سے دو ہزار آدمی مصر جانے کے لئے آمادہ کر سکے۔ جس وقت روانہ کیا، اسی وقت محمد کے قتل کی خبر آگئی۔ اس لئے راستہ سے واپس بلا لیا۔ حضرت علی کو محمد کے قتل ہو جانے کا بہت صدمہ ہوا۔

مصر کے قبضہ نے امیر معاویہ کے جو صلے کو بہت بڑھا دیا۔ اب انھوں

نے ہر طرف اسلامی غولوں پر قبضہ کرنے کے لئے اپنی فوجیں روانہ کرنی شروع کیں۔

نعمان بن بشیر کو عین التمر کی جانب بھیجا۔ وہاں کے والی مالک بن کعب نے حضرت علی سے امداد طلب کی، انھوں نے اہل کوفہ کو حکم دیا لیکن کوئی نہیں گیا۔

سفیان بن عوف کو چھ ہزار فوج کے ساتھ انبار اور مدائن کی طرف روانہ کیا۔ وہ ان مقامات سے عماد مال و خراج جمع کر کے لے گئے۔ حضرت علیؑ اطلاع پا کر تعاقب کے لئے نکلے، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے۔

عبداللہ بن مسعدہ کو تیمار کی طرف بھیجا اور وہاں سے مکہ اور مدینہ جانے کا حکم دیا۔ حضرت علیؑ نے ان کے مقابلہ کے لئے مستب کو روانہ کیا تیمار میں ذریعین میں جنگ ہوئی۔ آخر میں مستب نے ان کو بھاگنے کا موقع دے دیا اور ابن مسعدہ فوجیں نکال لے گئے۔

ضحاک بن قیس کو بصرہ اور بسریں ارطاة کو تین ہزار فوج دے کر حجاز اور یمن کی طرف بھیجا۔ بسریں آکر مدینہ پر قبضہ کر لیا اور اہل مدینہ سے اہر معاویہ کی خلافت کی بیعت لی، پھر مکہ میں پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے بھی بیعت کر لی اس کے بعد یمن کی طرف بڑھے۔ عبید اللہ بن عباس والی یمن حضرت علیؑ کے پاس کوفہ چلے آئے، بسریں سے متعارف پر قبضہ کر لیا اور



بل میں سے بھی بیعت لے لی۔

بسر ایک خوزرہ آدمی تھا۔ اس نے عبید اللہ بن عباس کے دو کم سن بچوں کو جنہیں وہ صنعا میں چھوڑ گئے تھے قتل کر ڈالا۔

اس وقت اسلامی صوبوں کی اجمالی حالت یہی تھی۔ امت کا شیرازہ تفرق اور نظام ابتر تھا۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن عباس والی بصرہ بھی حضرت کی حمایت چھوڑ کر مکہ میں چلے آئے کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انھوں نے بیت المال سے کچھ رقم لے لی ہے۔

ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ فیصلہ کے بعد سے حضرت علی رضاعے آرمیں معاویہ اور ان کے ساتھیوں پر لعنت بھیجا کرتے تھے۔ ادھر معاویہ نے جب سنا تو وہ بھی حضرت علی اودان کے ساتھیوں پر نماز کے بعد لعنت بھیجنے لگے۔ یہاں تک کہ بنی امیہ میں اس کا دستور ہو گیا اور وہ جمعہ کے لمحوں میں بھی لعنت بھیجنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس رسم اپنے عہد میں مٹایا۔

عالم اسلامی کا یہ اضطراب دیکھ کر خوارج میں سے تین شخص بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد مدادی برک بن عبد اللہ اور عمرو بن بکر تمیمی ہم ملکر بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے کہ اس مصیبت سے امت کی روان

کی کیا صورت ہے۔ آخر میں انہوں نے طے کیا کہ حضرت علی، امیر معاویہ اور  
 عمرو بن عاص تینوں آدمی اگر قتل کر دئے جائیں تو جھگڑا منٹ جائے۔ لہذا  
 ہم میں سے ہر شخص ان میں سے ایک ایک کے قتل کا ذمہ لے۔ ابن بلجم نے  
 حضرت علی کے قتل کا ذمہ لیا۔ عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کا اور بکر نے  
 امیر معاویہ کا۔ اور تینوں نے قسم کھائی کہ یا تو ہم ماریں گے یا مر جائیں گے۔  
 ۱۵ رمضان ۳۵ھ تاریخ مقرر ہوئی کہ اس روز حملہ کریں۔ ابن بلجم نے اپنے  
 اس ارادہ کی اطلاع اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہیں دی اور کوفہ میں آ گیا۔  
 یہاں تیم رباب کے قبیلہ کے کچھ لوگ تھے جن کے دس آدمی نہروان کی لڑائی  
 میں حضرت علی کی فوج نے قتل کئے تھے۔ ان مقتولین میں شجنہ اور اس کا  
 بیٹا بھی تھا۔ شجنہ کی بیٹی قطامہ کوفہ میں تھی۔ ابن بلجم نے جو اسی قبیلہ میں پھرا  
 تھا جب اس کو دیکھا تو اس کے بغیر معمولی حسن و جمال کی وجہ سے فریفتہ  
 ہو گیا اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ قطامہ نے کہا کہ اس شرط پر کہ پہلے مہرا دیا کر  
 دو۔ اس نے کہا کس قدر؟ کہا تین ہزار درہم۔ ایک لونڈی اور ایک غلام  
 اور حضرت علی کا سر۔ ابن بلجم نے منظور کیا اور کہا کہ میں اس شہر میں خاص ایسی  
 کام کے لئے آیا ہوں کہ حضرت علی کو قتل کروں۔ اگر تجھ کو منظور ہے کہ میں  
 اس میں کامیاب ہوں تو کسی کے سامنے اس لفظ کو زبان پر نہ لانا۔ ورنہ راز  
 فاش ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں کسی سے نہیں کہوں گی۔ تم اچانک ہنجران

مار ڈالو۔ اگر بیچ گئے تو ہم دونوں عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے ورنہ آخرت کا عیش تمہارے لئے دنیا کے عیش سے بدرجہا بہتر ہوگا۔

**قتل ابن لہج** نے اپنے دوستوں میں سے ایک معتمد کو جو اس کو کام میں مدد دے سکے اپنا ہماز بنایا۔ قطام نے بھی اپنے قبیلہ کے ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا۔ حسب قرار داد ۱۵ رمضان کو مسجد میں جہاں حضرت علی نماز پڑھایا کرتے تھے جا کر گھات میں پیچھے گئے۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے تو ان کے سر پر تلوار ماری۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کرو۔ لوگوں نے پکڑ لیا۔

زخم زیادہ کاری پڑا تھا۔ تیسرے دن یومِ ثننبہ، ۱۷ رمضان سنہ ۴۰ کو حضرت علی رحلت فرما گئے۔ آخری وقت میں لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم آپ کے بعد امام حسن کو خلیفہ بنائیں۔ فرمایا کہ نہ میں تم کو حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ وفات سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کیا اور وصیت کی کہ اگر میں گزر جاؤں، تو صرف قاتل سے قصاص لیا جائے۔ دوسرے لوگ نہ قتل کئے جائیں۔ اور قاتل کے بھی اعضاء کاٹے جائیں کیونکہ اسلام میں دیوانے کتے کا بھی مثلہ کرنا روا نہیں ہے۔

حضرت کی مدتِ خلافت چار سال اور چند روز کم تو مہینے تھی۔

برک بن عبداللہ نے اسی تاریخ کو دمشق میں امیر معاویہ پر جب وہ مسجد

کے دروازے سے نکلنے لگے وار کیا لیکن ان کو نحیف زخم آیا جو چند روز  
 علاج کرنے سے اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد سے انھوں نے مسجد میں مقصود  
 بنو لیا اور ہر وقت اپنے ساتھ محافظ رکھنے لگے۔ یہاں تک کہ جس وقت  
 نماز پڑھتے تھے اس وقت بھی دونوں طرف دو سپاہی مسلح کھڑے  
 رہتے تھے۔

عمر بن عاص اس روز بیمار تھے۔ اس لئے اپنی بجائے خارجہ بن حذافہ  
 کو نماز پڑھانے کے لئے بھیجا۔ عمرو بن بکر کو جو گھات میں بیٹھا ہوا تھا  
 سمجھا کہ یہی عمرو بن عاص ہیں اور انھیں کو قتل کر ڈالا۔  
 حضرت علی نے نکاح کئے۔

## بیت علی

(۱) فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سب سے  
 پہلی بیوی تھیں جب تک یہ زندہ رہیں دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا  
 ان کے بطن سے دو بیٹے امام حسن اور حسین اور دو بیٹیاں زینب کبریٰ  
 و ام کلثوم کبریٰ تھیں۔

(۲) ام النبیین بنت حزام۔ ان سے عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان  
 پیدا ہوئے۔

(۳) لیلیٰ بنت مسعود تمیمی ان سے دو بیٹے عبداللہ اور ابو بکر ہوئے۔

(۴) اسماء بنت عمیس۔ محمد صغیر کی والدہ ہیں۔



(۵) صہبار بنت ربیعہ بنی تغلب کے امیران جنگ میں آئی تھیں۔ ان سے عمر اور رقیہ دو بچے پیدا ہوئے۔

(۶) امار بنت ابی العاص۔ یہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ ان سے محمد اوسط پیدا ہوئے۔

(۷) خولہ بنت جعفر الخنفیہ۔ ان سے محمد پیدا ہوئے جو اپنی ماںہالی نسبت سے محمد بن الخنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔

(۸) ام سعید بنت عمرو بن مسعود۔ ان سے دو بیٹیاں ام الحسین اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔

(۹) محیاء بنت ابرار القیس۔

ان کے علاوہ مختلف اہماتِ ولد سے کئی بیٹیاں تھیں۔

ام ہانی۔ میمونہ۔ زینب۔ رملہ صغریٰ۔ ام کلثوم صغریٰ۔ فاطمہ امانہ۔ خدیجہ۔ ام الکرام۔ ام سلمہ۔ ام جعفر۔ جمانہ اور نفیسہ۔ تمام اولاد میں صرف پانچ کی نسل چلی۔

حسن، حسین، محمد بن خنفیہ، عباس اور عمر رضی اللہ عنہم۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صفاتِ عالیہ میں نمایاں تر شجاعت  
مناقب علی ہے۔ بڑے بڑے سخت معرکے پیش آئے۔ لیکن کبھی ان کے پائے ثبات کو عرض نہ ہوئی۔ سب سے پہلے ان کی بہادری

کا اظہار اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ان کو اپنے بستر پر سلا یا تھا۔ مکان کے باہر دشمن شمشیر بکف قتل کرنے کے لئے کھڑے تھے لیکن یہ بے خوف و خطر سو رہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر اور خیبر کے کارناموں نے ان کو بہت مشہور کر دیا۔ بڑے بڑے جنگ اور ان کے سامنے آتے ہوئے لڑتے تھے۔ لڑائیوں میں کبھی ان کو پروانہ ہوتی تھی کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف آرہی ہے۔ عہد رسالت کے بعد اگرچہ ۲۴ سال تک ان کی تلوار میان میں رہی لیکن پھر اپنے زمانہ خلافت میں اس کو باہر نکالا تو اس میں وہی کاٹ اور وہی روانی تھی۔

فقہ میں ان کا پایہ بہت بلند تھا۔ فطری طور پر ان میں ہاشمی فہم و ذہانت تھی۔ ہمیشہ آنحضرت کی صحبت میں رہے اور قرآنی تفقہ سیکھا۔ نیز وہ بار خلافت کے کاتب خصوصی تھے۔ ان وجوہات سے احکام دینی کے استنباط صحیح کا بے نظیر ملکہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ خلفاء سابقین خاص کر حضرت عثمان سے مشورہ لیا کرتے تھے اور کسی دینی مسئلہ میں جب اختلاف واقع ہوتا تھا تو بیشتر انھیں کی رائے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ فصاحت و بلاغت میں بھی بے مثال تھے۔ ان کے خطبات و مکاتیب کا جو مجموعہ شریف تفسی نے نہج بلاغہ کے نام سے جمع کیا ہے اس کے

دیکھنے سے یقین ہو جاتا ہے کہ دراصل وہ حکیم العرب اور آنحضرت کے بعد سب سے زیادہ غمخوش بیان تھے۔

ان کے بعض بعض خطبے اور خطوط تو اس قدر لطیف و پر معنی و دلنشین و حکمت آموز ہیں کہ ان کو انسانی فضل و کمال و کویائی و دانائی کی آخری حد کہہ سکتے ہیں۔

اسی طرح زہد ترک دنیا اثار و رضا جوئی حق عبادت و ریاضت کمال علم و حکمت میں بات پر ہم نظر ڈالتے ہیں وہ صحابہ میں ممتاز نظر آتے ہیں۔

اسباب مخالفت

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسا بات تھی کہ حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ جو خاندان رسالت سے کوئی قریبی تعلق نہیں رکھتے تھے ان کی توامت نے کامل و قادری کے ساتھ اطاعت کی اور متفق و متحد ہو کر ان کے اشاروں پر چلتی رہی لیکن حضرت علیؓ کے عہد میں جو آنحضرت کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے اور خود بھی صفات عالیہ میں ممتاز تھے مخالفت کے لئے آمادہ ہو گئے۔

اس سوال کا جواب ان کے عہد کے حالات پڑھنے سے جن کو ہم اوپر لکھ آئے ہیں مل سکتا ہے لیکن اجمالی طور پر مخالفت کے اسباب یہاں بھی بیان کر دیتے ہیں۔

(۱) حضرت علیؓ اپنی خصوصیات اور قربت رسولؐ کی وجہ سے خلافت

کو اپنا حق سمجھتے تھے اور اس لہر کو بار بار اپنی تقریروں میں ظاہر بھی کیا کرتے تھے اور انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جو شخص اپنے تفوق کا اظہار کیسے اس کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا۔ لوگ تو بالطبع اس کی طرف جھکتے ہیں جو حضرت ابو بکر کی طرح یہ کہے کہ

میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔

حضرت علی جو رائے کسی معاملہ میں رکھتے تھے اسی کو ٹھیک سمجھتے تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے۔ لوگوں کی مخالفت کی ان کو پروا نہیں ہوتی تھی۔ مشورہ جو خلفاء سابقین کا دستور تھا۔ ان کے عہد میں جاتا رہا۔ چنانچہ ایک بار حضرت طلحہ اور زبیر نے بیعت کرنے کے بعد شکایت بھی کی کہ آپ نے ہمیں کسی کام میں شریک نہ کیا۔ نہ کسی معاملہ میں رائے لی جو ابا کہا کہ کون سا معاملہ میرے سامنے ایسا پیش ہوا جس کی صحیح حقیقت سمجھنے سے میں قاصر رہا جو تم کو بلا کر مشورہ لیا۔ میرے لئے کتاب و سنت کافی ہے۔ مجھے تمہاری یا کسی دوسرے کی مدد کی احتیاج نہیں ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی طبیعتیں اس کو برداشت نہیں کر سکتیں۔

(۲) جس وقت وہ خلیفہ ہوئے سب سے پہلے والیان صوبہ کی معزولی

کا فرمان صادر کیا۔ خیر خواہوں نے ہر خداس کو ملتوی کرنے کی رائے دی لیکن نہیں قبول فرمایا۔ امرار نے خیال کیا کہ ان کی خلافت ہمارے لئے



مصیبت ہوگی۔ اس لئے سب کے سب ان کے مخالف ہو گئے۔  
 ۱۳، خلفاء سابقین کے ان فیصلوں کی جو ان کی رائے میں صحیح نہ تھے۔  
 از سر نو اصلاح شروع کی۔ حضرت عثمان نے جو اقطاع زمین کو دئے تھے  
 ان کو واپس لے لیا۔ عبید اللہ بن عمر کو جنہوں نے ہرمزان کو حضرت عمر کے  
 قتل کی سازش کے شبہ میں مار ڈالا تھا اور جن کے مقدمہ کو حضرت عثمان  
 نے ہرمزان کی دیت کو اپنے ذمہ لے کر دیا تھا قصاص میں قتل کرنا  
 چاہا۔ حالانکہ حضرت عثمان خلیفہ تھے ان کے فیصلہ کا احترام واجب  
 تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عبید اللہ مدینہ سے بھاگ کر دمشق چلے گئے اور امیر  
 معاویہ کی طرف سے صفین میں ان کے مقابل میں ایک فوج لیکر آئے  
 امیر معاویہ امرار فوج اور روسا قبائل کے ساتھ مراعات و مدارات  
 اور ان کی بہت سی باتوں سے چشم پوشی کر کے ان کو قابو میں رکھتے تھے  
 لیکن حضرت علی ایک ایک جو کا حساب لیتے تھے اس سے بھی لوگوں  
 کے دل برگشتہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ خود ان کے چچا زاد بھائی حضرت  
 عبداللہ بن عباس نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حالانکہ ایسے زمانہ میں  
 چغانور خیر خواہوں کے متعلق طرح طرح کی تہمتیں گھڑ کر مشہور کر دیتے ہیں  
 ممکن ہے کہ قیس بن سعد والی مصر اور عبداللہ بن عباس دونوں پر ایسی تہمت  
 کے لوگوں نے اتھام لگا دیا ہو۔

بے شک عمر نے بھی اپنے اعمال سے سخت محاسبہ کیا کرتے تھے۔  
 لیکن ان کی اور حضرت علی کی حالت میں بڑا فرق تھا کیونکہ وہ جو کچھ کرتے  
 تھے اس میں امت ان کے ساتھ ہوتی تھی اور یہ جو کچھ کرتے تھے اس میں  
 امت کا زیادہ تر حصہ ان کے خلاف ہوتا تھا۔ اس سے کسی کو انکار نہیں کہ  
 حضرت علی امت کو حق پر چلانا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے دلوں  
 پر قابو حاصل کر لینا ضروری تھا۔

(۴) حضرت علی کو جن لوگوں سے سابقہ پڑا تھا یعنی اہل عراق۔ ان کو  
 راہ راست پر چلانے کے لئے ان پر سخت قابو رکھنے کی ضرورت تھی اور حضرت  
 علی یہ کر نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو خلیفہ  
 بنایا ہے اور اسی وجہ سے ان کے اوپر حاوی ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان کو  
 قتل کرنے کے بعد ان کے دلوں سے خلیفہ اور خلافت کی ہیبت بھی مٹ  
 چکی تھی۔

چنانچہ جنگ صفین میں شامیوں کے قرآن اٹھانے کے موقع پر ہر چند  
 حضرت علی نے اہل عراق سے لڑائی جاری رکھنے کے لئے کہا لیکن انھوں  
 نے قطعی انکار کر دیا اور ان کو حکم ماننے پر مجبور کر دیا۔ یہاں تک کہا کہ اگر  
 آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو عثمان کے ساتھ کیا ہے۔  
 آخر میں یہاں تک ذریت پہنچ گئی کہ حضرت علی پکارتے تھے وہ نہیں

سنتے تھے حکم دیتے تھے وہ نہیں مانتے تھے۔ اسی وجہ سے مجبوراً شام کی لشکر کشی کا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ بلکہ وہی لوگ خود ان کے اعمال پر نکتہ چینیوں کرنے لگے۔ چنانچہ جب انھوں نے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا والی مقرر کیا تو عراقیوں نے کہا کہ حجاز کے والی قثم بن عباس۔ یمن کے عبید اللہ بن عباس مصر کے عبداللہ بن عباس۔ پھر ہم نے فضول حضرت عثمان کو قتل کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی جماعت اور ایسی فوج سے وہ کیا کام لے سکتے تھے۔ چنانچہ ایک روز خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی کاہلی کا نتیجہ ہے جو قریش کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اگر چہ مرد شجاع ہے لیکن فنون جنگ سے واقف نہیں۔ روز بروز عراقیوں کی نافرمانی بڑھتی گئی۔ حضرت علی ان سے تنگ آکر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! مجھ کو ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور ان کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر دے۔ غالباً انہی کی دعا کا یہ اثر پڑا کہ کوفہ ان کے بعد حوادث کا مرکز بن گیا اور ایسے ایسے سفاک اور خوریزہ حاکم یہاں آئے جنہوں نے اہل عراق کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا۔ یہاں تک کہ ویران ہو گیا۔

(۵) فرقہ خوارج جو انھیں عراقیوں میں سے ایک جاہل اور باغی گروہ پیدا ہو گیا تھا اس نے بھی حضرت علی کے راستے میں بہت رکاوٹ ڈالی اور آخر میں اسی جماعت کے ایک سیاست دان نے انہیں قتل بھی کر ڈالا۔ الغرض

حضرت علی کی شخصیت بہ لحاظ اپنی بے نظیر خوبیوں کے اگرچہ جماعت صحابہ میں ممتاز تھی لیکن ان کا عہدِ خلافت اسباب مندرجہ بالا کے باعث خانہ جنگی اور شورش کا عہد ہو گیا۔ اسلامی طاقت اور شوکت کو نقصان پہنچا اور فتوحات کا سلسلہ یک قدم بند ہو گیا۔

**امام حسن** | حضرت علی کے بعد اہل عراق نے امام حسن کے ہاتھ پیریت کی۔ امیر معاویہ فوجیں لے کر آگئے۔ عراقی پہلے ہی حملے میں شکست کھا گئے۔ امام حسن بھی فوجی ہو گئے۔ اس وجہ سے انھوں نے صلح کی خواہش کی اور مصالحت عام کو پیش نظر رکھ کر مزید خونریزی سے کنارہ کش ہو گئے۔ امیر معاویہ نے ایک سادہ قرطاس دستخط کر کے ان کے پاس بھیج دیا کہ جو شرائط آپ چاہیں اس پر لکھ دیں۔ انھوں نے لکھا کہ اہل عراق کو اس عام دے دیا جائے۔ گزشتہ لڑائیوں کے انتقام میں کسی کی گرفت نہ ہو۔ اہواز کا خراج مجھے ملتا ہے اور میرے بھائی مسکین کو بیس لاکھ درہم سالانہ دتے جائیں۔ اور عطیہ اور صلہ میں بنی ہاشم دوسرے لوگوں سے مقدم رکھے جائیں۔ امیر معاویہ نے ان سب باتوں کو منظور کر لیا۔

امام حسین نے امام حسن سے کہا کہ علی کے مقصد کو آپ نے مٹا کر معاویہ کے منصوبہ کو پورا کیا۔ انھوں نے کہا کہ خاموش رہو، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔



ربیع الاول ۱۲ھ میں یہ عہد نامہ مکمل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جو امام حسن کے بارے میں فرمائی تھی کہ:

میرا یہ بیٹا سید ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں میں صلح کرا دے گا۔  
امام حسن اور حسین وغیرہ سب لوگوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر ساری امت ایک علم کے نیچے آ گئی۔ اس لئے اس سال کو عام الجمانت کہتے ہیں۔

# خلافتِ راشدہ

میں

## مدنیتِ اسلام

جو زمانہ حضرت ابوبکر کی خلافت سے امیر معاویہ کی بیعت عام تک ختم ہو جاتا ہے اور جس کی مدت تیس سال ہے تاریخ میں اس کو عہدِ خلافتِ راشدہ کہتے ہیں۔

اس عہد میں جو اسلامی مدنیت تھی اس پر ایک سرسری نظر ڈالنی ہم اس موقع پر مناسب سمجھتے ہیں۔ مدنیت سے ہماری مراد وہ نظام ہے جس پر امت اپنے اجتماعی امور میں کار بند ہوئی۔ خواہ وہ امور اندرونی اصلاحوں سے تعلق رکھتے ہوں یا بیرونی جنگوں سے۔

مدنیت کا سب سے پہلا منظر خود اسلامی خلافت کا قیام تھا۔ **خلافت** رئیس امت کا لقب خلیفہ رسول رکھا گیا لیکن حضرت عمر نے اپنے لئے بجائے خلیفہ کے امیر المؤمنین کا لفظ پسند کیا جس سے ان کے عہد کے

کے صحیح مفہوم اور جمہوریت دونوں کا اظہار ہوتا تھا۔ ان کے بعد سے یہ لفظ تمام خلفاء کے لئے مستعمل رہا۔

خلافت دراصل دنیاوی ریاست ہے جس کی بنیاد دین پر رکھی گئی ہے اور اس کی غرض یہ ہے کہ اصول دین کے مطابق ہر قسم کی صلاح و فلاح کی طرف امت کی عملی رہنمائی کرے۔ اس لئے خلیفہ جب تک فطوری شرعیہ کے خلاف کوئی حکم نہ دے اس کی اطاعت واجب ہے۔

خلافت راشدہ میں تشریح کی بنیاد قرآن اور سنت پر تھی۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آجاتا جس کے بارے میں کوئی صریح حکم ان دونوں میں نہ ملتا تو امثال و نظائر پر قیاس کر کے اس کا حکم نکالتے تھے۔ خلیفہ استنباط مسائل میں دیگر علماء و مجتہدین سے کوئی خاص امتیاز نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ اکثر خود ان سے سوال کرتا یا اپنے اجتہاد میں مدد لیتا تھا۔ اگر کسی امر میں سب لوگ متفق ہو جاتے تو اس کا اتباع لازمی ہو جاتا۔ اسی کو اصطلاح فقہ میں اجماع کہتے ہیں اور اگر باہم اختلاف ہوتا تو خلیفہ ان میں سے کسی صورت کو ترجیح دیکر اس کے مطابق حکم دیتا تھا۔

الغرض خلیفہ کو کوئی تشریحی اختیار یا کوئی اس قسم کی دینی ریاست حاصل نہ تھی کہ وہ جو حکم دیدے وہی مذہبی مسئلہ قرار پا جائے بلکہ وہ احکام دینی کو صرف نافذ کرنے کا مجاز تھا۔

انتخاب خلیفہ کی بنیاد شوریٰ پر تھی۔ خلیفہ جو دوسرے کو اپنا ولیعہد بناتا تھا تو

وہ بھی سب سے مشورہ لے کر بنانا تھا۔ اس لحاظ سے اسلامی خلافت دراصل  
 جمہوری ہے صرف فرق یہ ہے کہ عام خیال کے مطابق رئیس اسلام یعنی خلیفہ  
 کو قبیلہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔

خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے وقت اس سے شرط لی جاتی تھی کہ وہ کتاب  
 و سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ حضرت عثمان کی بیعت میں سنت شیخین کا لفظ اور  
 بڑھایا گیا لیکن یہ زیادتی حضرت علی کی بیعت میں حذف کر دی گئی۔

خلفہ اکثر امراء میں اصحاب رائے سے مشورہ لیتے تھے حضرت عمرؓ  
 خصوصیت کے ساتھ اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے وہ کل کاموں میں ایمان صحابہ  
 حضرت عثمان، علی اور عبدالرحمن بن عوف وغیر ہم رضی اللہ عنہم سے لائے لیا کرتے  
 تھے۔ عبداللہ بن عباس اگرچہ کم سن تھے لیکن چونکہ عقل و فہم میں ممتاز تھے اس  
 لئے ان کو بھی مشورہ میں شریک کر لیتے تھے کبھی کبھی جب کوئی اہم معاملہ  
 پیش آتا تو تمام مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے رائے لیتے، ہر شخص آزادی  
 کے ساتھ جو اس کی سمجھ میں آتا تھا کہتا تھا۔

عام معاملات میں اگرچہ رجال شوریٰ خود ان کے منتخب کردہ ہوتے تھے  
 لیکن کوئی دوسرا شخص بھی اگر مناسب رائے دے سکے تو اسکے لئے رکاوٹ نہ تھی۔  
 انہیں نظام خلافت میں جمہوریت اور مساوات کی پوری روح تھی اگرچہ  
 کمی تھی تو صرف اس بات کی کہ یہ متعین نہ تھا کہ خلیفہ کے انتخاب کا حق کن



لوگوں کو حاصل ہے ورنہ حضرت علی اور امیر معاویہ میں نزاع نہ واقع ہوتی۔ کیونکہ حضرت علی سمجھتے تھے کہ حق انتخاب صرف اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ انہوں نے جب کسی کو منتخب کر لیا تو بیعت خلافت مکمل ہو گئی۔ اہل شام کا خیال تھا کہ جب تک تمام اہل ہند اور دیار و امصار کے اعیان و رؤسا بیعت نہ کر لیں اس وقت تک خلافت مسلم نہیں ہو سکتی۔

خلافت راشدہ میں شاہانہ تمکنت اور جاہ و جلال کی کوئی شان نہ تھی۔ عام لوگوں کی طرح خلیفہ بھی سڑکوں پر پیدل پھرتا تھا نہ اس کے ساتھ محافظ ہوتے تھے نہ نقیب۔ سب لوگ اس سے ملتے تھے اور سب سے وہ ملتا تھا۔ دوسرے مسلمانوں میں اور اس میں بجز عہدہ خلافت کے اور کوئی امتیاز نہ تھا۔

مقتدات کا فیصلہ قانون شرع کے مطابق خلیفہ کے فرائض صیغہ قضا میں سے تھا اس لئے خلفاء اس کام کے واسطے خود اپنی طرف سے نائب مقرر کرتے تھے۔

خلیفہ اول کے عہد میں ہر شہر کا جو عامل ہوتا وہی فصل خصومات کی خدمت بھی انجام دیتا۔ لیکن عہد فاطمی میں محکمہ قضا ایک جداگانہ مستقل صیغہ قرار دیا گیا۔ اس کو انتظامی امور سے کوئی تعلق نہ تھا۔ قاضیوں کو بیت المال سے تنخواہ دی جاتی تھی اور تجارت وغیرہ کر کے کی ممانعت تھی۔

ان تمام قاضیوں میں سے جو اس عہد میں مقرر ہوئے تھے کسی ایک

کے بارے میں بھی یہ نہیں سنا گیا کہ اس کے کسی مقدمہ میں رورعایت کی ہو یا انصاف کا خیال نہ رکھا ہو۔ ان کی نگاہوں میں ادنیٰ اور اعلیٰ رعیت اور خلیفہ سب برابر تھے۔

یہ قضاۃ مجتہد مطلق نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ ان کا کام یہ تھا کہ قانونِ شرعی کو اچھی طرح سمجھ کر جن واقعات اور حوادث میں کوئی صریح حکم نہ ملے تو نظائر و امثال پر قیاس کر کے ان کا فیصلہ کریں۔ یعنی قواعد کلیہ کا استنباط کیے ان سے کوئی جزئی احکام نکالیں۔

قاضیوں کے علاوہ ہر شہر میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی پیدا ہو گئی تھی جو قوانینِ شرعیہ سے استنباطِ احکام کا تفقہ حاصل کرتی تھی۔ قاضی مشکل امور میں اس جماعت سے بھی مدد لیتے تھے۔

سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ اس زمانہ تک عموماً رسولِ مدونہ نہیں ہوئی تھیں۔ صحابہ و یار و اصحاب میں متفرق تھے اور ایک کے پاس جو حدیثیں تھیں وہ دوسرے کے پاس نہیں تھیں۔ اس لئے قاضیوں کے فیصلے ایک ہی قسم کے معاملات میں یا ہم مختلف ہوتے تھے کسی کو کوئی حدیث ملجاتی تھی اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا تھا اور کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا وہ استنباط اور اجتہاد سے کام لے کر دوسرے نتیجہ پر پہنچتا تھا۔

جہاں تک ہم کو معلوم ہو سکا ان فیصلوں کا اندراج کسی دفتر میں نہیں

ہوتا تھا نہ فریقین کو اس کی باقاعدہ نقل دی جاتی تھی اور نہ ان کے تنفیذ و اجراء کے لئے کوئی طاقت استعمال میں لائی جاتی تھی بلکہ قاضی جو حکم دیتا تھا محکوم علیہ فوراً تعمیل کر دیتا تھا۔

اس زمانہ میں فریقین کی حیثیت مستفسر سے زیادہ نہیں ہوتی تھی جب ان کو اپنے معاملہ میں شرعی حکم قاضی کی عدالت سے معلوم ہو جاتا تھا تو وہ خود اس کے مطابق کار بند ہو جاتے تھے۔

قصاص اور حد کا اجراء خود خلیفہ یا امراء صوبہ کے اختیار میں تھا۔ قضاۃ کو اس سے تعلق نہ تھا۔

یہ قضاۃ صرف بڑے بڑے شہروں میں تھے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس عہد میں باہمی تنازعات بہت کم ہوتے تھے۔

کوئٹہ میں حضرت عمر نے شرح بن عارث کنڈی کو قاضی مقرر کیا تھا۔ جو متواتر ۵۷ سال تک اپنے عہدے پر رہے۔ ابن زبیر کی لڑائیوں کے دوران میں صرف تین سال معطل رہے تھے اسلامی قضاۃ میں یہ نامور اور مشہور ہیں مدینہ کے سب سے پہلے قاضی حضرت ابو دردار اور مصر کے قیس بن ابی العاص تھے۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن قیس کو اصول عدالت پر ایک ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے :-

عدالت فرضِ حکم اور سنتِ رسول ہے اجلاس میں فریقین کو اپنے سامنے

مساوی رکھو تاکہ جو ادنیٰ ہو وہ تمہارے عدل سے ناامید اور جو اعلیٰ ہو وہ  
 تمہارے عدل سے امیدوار نہ ہو جائے۔ ثبوت مدعی کے ذمہ ہے اور  
 (وہ ثبوت نہ لائے تو) قسم مدعا علیہ پر مصالحت جائز ہے لیکن ایسی کہ جس  
 سے حلال حرام اور حرام حلال نہ ہونے پائے جو فیصلہ تم نے کیا ہے  
 غور کرنے سے اگر حق کے خلاف نظر آئے تو اس سے رجوع کر ڈالو جس  
 معاملہ میں خلیجیان ہو اور وہ کتاب سنت میں نہ ملے تو خوب غور کرو اس  
 کے نظائر کو دیکھو پھر انہیں پر قیاس کر لو۔ مدعی کو ثبوت کے لئے ایک  
 مدت معینہ کی مہلت دو اگر وہ ثبوت لائے تو اس کا حق دلا دو ورنہ اس  
 کے خلاف فیصلہ کر دو۔ تمام مسلمان ایک دوسرے پر شہادت کے لئے قابل  
 اعتبار ہیں بجز ان لوگوں کے جنہوں نے حد شرعی میں دسے کھائے ہوں  
 یا جھوٹی شہادت میں ان کا تجربہ ہو چکا ہو یا دلا اور وراثت کے معاملہ میں مشتبہ ہو یا  
 اس مکتوب کو عام طور پر اس عہد کے قاضیوں نے اپنا دستور العمل بنا رکھا تھا۔  
 حضرت عثمان کے عہد میں مدینہ کے قاضی زید بن ثابت مقرر ہوئے اور وہاں  
 دارالقضاء بنایا گیا اس سے پہلے بیشتر مقدمات مسجد میں فیصلہ کئے جاتے تھے  
 خلیفہ اول کے عہد میں کل فوج رضا کار تھی نہ ان کے نام کسی دفتر میں  
**فوج** منسج تھے نہ ان کو تنخواہ دی جاتی تھی صرف مال غنیمت کے چار حصے  
 ملتے تھے۔ امداد لشکر اسی میں سے حصہ رسیدی کے مطابق ہر سپاہی کو تقسیم کرتے تھے



جو شخص کوئی نمایاں کام کرتا اس کو خاص انعام بھی دیا جاتا۔ علاوہ بریں جو مجاہد کسی کافر کو قتل کرتا اس کو مقتول کا ساز و سامان ملتا۔

حضرت عمر نے اپنے عہد میں فوج کا دست مرتب کرایا اور بیت المال سے مجاہدین کی تنخواہ مقرر کی۔ اسلامی فضیلت کے لحاظ سے تنخواہیں مختلف رکھی گئیں، طبقہ اول میں اہل بدر تھے جن کی تنخواہیں سالانہ پانچ ہزار درہم تھیں۔ حضرت عمر بھی چونکہ بدری تھے اس لئے یہی تنخواہ ان کی بھی تھی۔ پھر شکر کار جنگ اُحد تھے جو چار ہزار درہم پاتے تھے اسی طرح درجہ بدر جبہ کم ہوتے ہوتے معمولی سپاہی کی تنخواہ دو سو سے تین سو تک درہم سالانہ تک تھی۔ تنخواہوں میں اختلاف بھی ہوتے تھے۔

مجاہدین کی اہل و عیال کی بھی تنخواہیں مقرر تھیں اور ان میں بھی مراتب کے لحاظ سے اختلاف تھا۔ البتہ غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں تھا جس طبقہ کا غلام ہوتا اسی طبقہ کے آقاؤں کی تنخواہ اس کو بھی دی جاتی۔ حضرت علیؓ کے زمانہ میں یہ اختلاف اٹھا دیا گیا اور کل مجاہدین کی تنخواہ خواہ وہ کسی طبقہ کے ہوں برابر کر دی گئی۔

عہد فاروقی میں دمشق، حمص، فلسطین، اردن، موصل، فسطاط، بصرہ اور کوفہ صدر فوجی مقامات قرار دئے گئے۔ ان میں کثیر التعداد فوجیں رکھی جاتی تھیں۔ نیز ان آکھوں مقامات پر چار چار ہزار گھوڑے ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ فوری ضرورت پر رسالے مرتب ہو سکیں۔ سرحدوں پر خاص کر شام اور مصر کے سوا محل پر حفاظت

کے لئے فوجی دستے لہتے تھے جو بیشتر اس فوج کے صدر مقام سے باری باری بھیجے جاتے تھے سپاہیوں کو بقدر ضرورت سامان خوراک دیا جاتا تھا اور چھاؤنیوں میں رسد کا ذخیرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔

فوج میں تمام عربی قبائل کے لوگوں کے نام مندرج کئے گئے تھے۔ ان کے علاوہ دیگر اقوام کے مسلمانوں کے نام بھی مندرج ہوتے تھے ہر دس آدمیوں کا ایک عرفی ہوتا تھا جو ان کی شناخت رکھتا تھا اور ان کو تنخواہ دلاتا تھا۔

ہر سال تقریباً تیس ہزار عہدید فوج بھرتی ہوتی تھی اور یہ سارا نظام اس قدر مرتب تھا کہ یہ ناممکن تھا کہ بروقت ضرورت کوئی شخص اپنے گھر بیٹھا رہے اور خلیفہ کو اس کا علم نہ ہو جلتے حضرت عمر ایسے لوگوں کو قبیلہ کی مسجد یا مجمع عام میں کھڑا کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جہاد سے جان چرائی یہ سزا ان کے لئے قتل سے بھی بڑھ کر تھی کیونکہ عرب کے نزدیک بزدلی سے زیادہ کوئی بدنامی نہیں تھی۔ فوج کے ساتھ قاضی، معلم، ترجمان اور معالج وغیرہ بھی رکھے جلتے تھے۔ نیز راستہ نکالنے اور پل باندھنے کا سامان بھی رہتا تھا۔ خلیفہ کا حکم تھا کہ فوج سفر میں ہو تو جمعہ کے دن ضرور قیام کرے تاکہ لوگ تازہ دم ہو جائیں اور اپنے ہتھیاروں اور کپڑوں کو درست کر لیں۔ ہر روز صرف اتنی ہی مسافت طے کریں کہ ماندہ نہ ہوتے پائین ان سپاہیوں کو جو کسی مہم پر بھیجے جاتے تھے بیشتر چار مہینے کے بعد گھر آنے کے لئے ایک مدت معینہ کی رخصت ملتی تھی۔

حضرت عثمان کے زمانہ میں امیر معاویہ کے مشورہ سے بحری فوج بھی تیار کی گئی۔ اور مسلمانوں کے پاس سمندر میں ایسی قوت ہو گئی کہ کئی بار رومیوں کو شکست دی اور جزیرہ قبرص وغیرہ فتح کر لیا۔

عربوں میں جنگ کا پرانا دستور یہ تھا کہ دشمن کے سامنے کبھی بے ترتیب اور کبھی صف بندی کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر دونوں طرف سے ایک ایک یا دو دو آدمی نکل کر لڑتے تھے اس کے بعد عام حملہ کرتے تھے۔ پھر بھاگتے تھے اور پھر پلٹتے تھے چونکہ متمدن اقوام کے مقابلہ میں یہ طریق جنگ کارآمد نہ تھا۔ اس لئے حضرت خالد نے جو ایرانیوں اور رومیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کے اصول جنگ اور صف آرانی کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے یہ کہ چھوڑ کر جنگ یرموک میں انہی کی روش کے مطابق اپنی فوج کو مرتب کیا۔ اس وقت سے تمام اسلامی اُمراء انہی اصولوں پر فوجوں کو ترتیب دینے لگے۔ سب سے پہلے مقدمہ لشکر ہوتا تھا جو جنگ شروع کرتا تھا۔ دائیں مینہ یا بائیں مینہ اور سچ میں قلب جہاں سر لشکر رہتا تھا پیچھے ساقہ ان میں سے بھی ہر ایک جہد مختلف سمتوں میں تقسیم رہتا تھا اور ان کے اُمراء ہوتے تھے جو سب سالانہ کے حکم کے مطابق اپنے دستے کو حرکت میں لاتے تھے کوئی سپاہی اپنی صف سے آگے بڑھتا نہ پیچھے ہٹتا تھا۔ عربی اُمراء اپنے خطر جمعیت کی حفاظت کا خاص اہتمام رکھتے تھے تاکہ دشمن پیچھے سے نہ آ پڑے اور جاسوسی کا انتظام اس قدر مکمل رکھتے تھے کہ غنیمت کی کوئی بات ان سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ محاصرہ حضرت عمر کے عہد سے صیغہ خراج کے شمال جہاں مقرر کئے جانے لگے جو رقم

وصول ہوتی تھی اس سے فوج کی تنخواہ اور سولے کے اخراجات ادا کئے جاتے تھے۔ باقی دارالخلافہ میں بھیدی جاتی تھی محصول کی دو تہیں مستقل اور غیر مستقل آمدنی خرچ۔ زکوٰۃ اور جزیہ تھی اور غیر مستقل قیمت اور عشر۔

خرچ: اس زمین کے لگان کا نام ہے جسکو مسلمانوں نے فتح کر کے خود وہاں کے باشندوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہو۔ یہ لگان اس زمین کے کرایہ کے طور پر لیا جاتا تھا۔ کبھی رقم معین کر دی جاتی تھی اور کبھی پیداوار کا کوئی حصہ لیا جاتا تھا۔

زکوٰۃ: اس محصول کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کی زمین یا مویشی یا نقدی وغیرہ پر لیا جاتا ہے جس کی تصریح کتب فقہ میں کر دی گئی ہے مسلمانوں کے پاس جو زمین ہوتی تھی اس پر عشر لیا جاتا تھا یعنی ہر فصل کی پیداوار کا دسواں حصہ اور اگر خراجی زمین ان کے قبضہ میں آجاتی تھی تو اس پر ان سے وہی خراجی لگان لیا جاتا تھا۔

عہد فاروقی میں حضرت عثمان بن عفیف جو مساحت کے کام سے واقف تھے عراق کی پیمائش کے لئے بھیجے گئے۔ انھوں نے کل عراق کی پیمائش کی حضرت عمرؓ نے تشخیص لگان میں خود عراقی کا شمار کاؤں سے مشورہ لیکر لیاقت و انحصاف شرح مقرر کی۔

جزیہ: وہ رقم تھی جو اہل ذمہ سے لی جاتی تھی۔ یہ صرف ان مردوں سے وصول کی جاتی تھی جو بیس برس کے پچاس برس کی عمر تک کے ہوتے تھے بشرطیکہ وہ اپنا بیج اور معذور نہ ہوں۔ بوڑھے بچے اور عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں اس کی شرح اشخاص کی حالت کے مطابق لکھی جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ فی کس ۴۸ درہم سالانہ اور کم سے کم ۱۲ درہم۔



حضرت عثمان کے عہد میں زکوٰۃ کا کھانا خود مسلمانوں کے سپرد کر دیا گیا حالانکہ اسکی تحصیل خود امام کا فرض تھا  
 مشورہ مسلمان تاجر جب دوسری سلطنتوں میں اپنا مال بیجاتے تھے تو وہاں ان سے  
 جنگی لی جاتی تھی ساہو موسیٰ اشعری نے اسکی کیفیت سے حضرت عمر کو مطلع کیا انہوں نے  
 حکم دیا کہ جس حساب سے غیر سلطنتیں ہمارے تاجروں سے چگی وصول کریں اسی حساب سے انکے  
 تاجروں سے لو لیکن وہ سود و عہد سے کہ کے مال پر کچھ دیا جائے۔

زیاد بن اجدیر اس صیغہ کے نگران مقرر کئے گئے ایک بار قبیلہ بنی تغلب کا ایک  
 نصرانی تاجر گھوڑا لیکر آیا جسکی قیمت بیس ہزار درہم تھی۔ زیاد نے اس سے ایک ہزار درہم جنگی لی  
 اسی سال وہ دوبارہ اسی گھوڑے کو لیکر گزرا تو پھر انہوں نے ایک ہزار درہم طلب کئے اس نے کہا کہ  
 ایک بار اسکی جنگی لی آپ نے چکے ہیں اب ہر بار میں کہاں تک ادا کرونگا لیکن زیاد نے اسکو  
 گزرنے نہیں دیا۔ وہ حضرت عمرؓ کے پاس شکایت لایا۔ حج کے موقع پر مکہ میں جا کر  
 ان سے ملا اور اپنا معاملہ سنایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں بند و بست کرونگا تغلبی نے  
 اس کو ایک سرسری بت سمجھا اور وہ میں کہا کہ ایک ہزار درہم پھر دینا ہوگا لیکن جب وقت سرحد  
 پر آیا تو وہاں خلیفہ کا حکم پہنچ چکا تھا کہ جس چیز پر ایک بار مشورے لیا جائے سال اٹندہ  
 کی اسی تاریخ تک اس پر کچھ نہ لیا جائے وہ اس سے اس قدر خوش ہوا کہ زیاد سے کہا  
 کہ میں وہیں طے کر کے آیا تھا کہ ایک ہزار درہم لدا کرونگا۔ اب اقرار کرتا ہوں کہ میں اسی  
 شخص کے دین پر ہوں جس نے یہ حکم بھیجا ہے۔

مسلمانوں کے مال تجارت پر جنگی بقدر زکوٰۃ کے کھری گئی یعنی چالیسواں حصہ دہریوں

پرام سے دونی اور اہل حرب پر وہ یک۔

غنیمت مال وہ ہے جو فوج کو دشمنوں سے حاصل ہوتا تھا۔ اس کے چار حصے فوج میں تقسیم کئے جاتے تھے اور ایک حصہ بیت المال میں آتا تھا۔

اس زمانہ کی بالیہ کی کل میزان کا پتہ نہیں لگ سکا صرف عراق اور مصر کی وصولی معلوم ہوئی۔ عہد فاروقی میں عراق سے ۱۰ کروڑ ۲۸ لاکھ درہم سالانہ کی آمدنی تھی اور مصر سے ۱۲ کروڑ درہم کی حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں مصر کی وصولی میں دو کروڑ درہم کا اور اضافہ ہو گیا تھا۔

اخراجات محاصل کے مطابق رکھے جاتے تھے اور خزانہ میں کوئی توفیر نہیں رہتی تھی۔

نماز۔ اقامت صلوٰۃ خلیفہ کے فرائض میں داخل تھی وہ خود نماز پڑھاتا تھا یا کسی کو پینا

نائب مقرر کر دیتا تھا۔ ہر شہر میں صرف ایک ہی جامع مسجد ہوتی تھی جس میں خلیفہ یا ولی

جمعہ پڑھاتا تھا۔ بجز جامع مسجد کے دوسری مسجدوں میں منبر نہیں بنائے جاتے تھے۔

حج: اسلام کا ایک عظیم الشان رکن حج پر جس میں حکم ہو کہ اطراف عالم میں مسلمان آکر عرفات میں جمع ہوں۔

اس اجتماع کی غرض یہ ہے کہ چند مقررہ دنوں تک اللہ کا ذکر کریں اور اس کے نام پر قربانیاں

چڑھائیں اور آپس میں تعارف اور تعلق بڑھائیں اور ان کو یہ علم ہو کہ وہ اپنے غیر ممالک کے

مسلمان بھائیوں سے کیا دولے سکتے ہیں یا کس طرح انکی امداد کر سکتے ہیں علاوہ بریں

خلفا و امرا ملک اور انتظامی معاملات میں باہم مشورہ کریں اور رعایا کی شکایتیں حضور میں

اور علماء میں انکو معلوم ہوں اس طرح حج میں دینی اور اخروی فائدوں کے علاوہ دنیاوی اور ملکی منافع

بھی بیشمار ہیں اور حرم مسلمانوں کا صرف دینی و مذہبی ہی نہیں بلکہ قومی و ملی مرکز بھی ہے۔

خلافت راشدہ میں امرا ممالک حج کے موقع پر مکہ میں آتے تھے بیشتر خود غلیفہ وقت  
امیر الحجاج ہوتا تھا اگر کسی وجہ سے وہ نہیں آسکتا تھا تو اپنے بجائے کسی کو قائم کر کے بھیجا تھا حضرت  
ابوبکر اپنے عہد خلافت میں ایک بار خود تشریف لائے تھے دوسری بار حضرت عثمان کو بھیجا تھا حضرت  
عمر اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے وہ ہر سال حج کو آتے رہے صرف اپنی خلافت کے پہلے سال  
خود نہ آسکے تھے اس لئے عبدالرحمن بن عوف کو بھیجا تھا حضرت عثمان بھی بجز دو سال کے  
اپنے عہد خلافت میں کبھی حج سے غیر حاضر نہ رہے البتہ حضرت علی اندرونی جنگوں کی وجہ سے  
اپنے عہد خلافت میں کبھی نہ آسکے لیکن نائب بھیجتے رہے۔

رفاہ عام | حضرت عمر کے عہد میں مسجد حرم بڑھانی گئی انہوں نے بیت المقدس میں بھی مسجد تعمیر کرائی۔  
اس کے علاوہ کل ممالک اسلام میں ان کے عہد میں تقریباً چار ہزار مسجدیں بنائی گئیں اسلامی مرکزوں میں اہل  
اور شمال کیلئے مکانات فوجی چھاؤنیاں ہمان خانے دفاتر اور خزانے تعمیر ہوئے مدینہ سے مکہ کا راستہ  
انہوں نے درست کرایا اور اس میں جا بجا سرائیں بنوادیں اسپانسی اور دیگر فریادیں کیلئے عراق میں  
متعدد نہریں بچلے سے نکلائی بنیں میں سے نہری موسیٰ اور نہر سعد خاص طور پر مشہور ہیں مصر میں  
دریائے نیل کو تشریحی کھد کر دریائے قنزم سے ملا دیا تاکہ کشتیوں کے ذریعہ مدینہ تک آسکے اسی  
فاصلہ بحر روم اور بحر قنزم میں تھا عمرو بن عاص نے مصر نے خواہش کی کہ ان دونوں سمندروں کو بھی  
ملا دیں لیکن حضرت عمر نے اس خیال سے کہ رومی کشتیاں اس راستہ سے آکر عرب پر حملہ کرنے لگیں گی۔  
اجدت نہیں دی ان کے حکم سے بحر روم کو فسطاط، بوسل اور جزیرہ میں متعدد شہر بھی آباد کئے گئے۔  
حضرت عثمان کے زمانہ میں مسجد حرم اور مسجد نبوی میں اضافہ کیا گیا مدینہ اور کوفہ وغیرہ میں ضیانت خانے

قائم ہوئے اور جا بجا دستے اور دریاؤں کے پُل بنائے گئے۔ ملک شام میں جہازوں کی تعمیر کا کارخانہ قائم ہوا  
 جہاں لبنان کے جنگلات سے درخت کاٹ کر پہنچائے جاتے تھے اور کشتیاں تیار ہوتی تھیں  
 تعلیم قرآن مجید عہد رسالت میں ۲۳ سال تک تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نازل ہوتا۔ رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے بھی تھے اور صحابہ کو زبانی یاد بھی کرا دیتے تھے چنانچہ آنحضرت نے  
 انتقال فرمایا تو بہت سے صحابہ پورے قرآن کے حافظ اور سیکڑوں ایسے تھے جن کو زیادہ تر  
 حصے یاد تھے۔ یہ لوگ حفاظ اور قراء کہے جاتے تھے۔

مسلمہ کذاب کی لڑائی میں تقریباً چار سو حفاظ اور قراء شہید ہو گئے اس وقت حضرت عمر نے  
 سوچا کہ اگر اسی طرح حاملان قرآن ختم ہوتے چلے گئے تو قرآن کس طرح محفوظ رہے گا۔ اس لئے  
 حضرت ابو بکر سے کہا کہ قرآن پورا ایک جگہ لکھ کر محفوظ کر لیا جائے انھوں نے حضرت زید بن ثابت  
 کو جو کاتبِ وحی تھے اور اسی سال رمضان میں آنحضرت کے ساتھ قرآن مجید کا آخری دور کر چکے تھے  
 اس کام کیلئے منتخب فرمایا۔ حضرت زید نے ہمارے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ملکر اسکی تمام  
 سیدہ قوں کو جو متفرق صحیفوں، تختیوں، کھجور کے پتوں اور اونٹ کی ہڈیوں پر لکھی ہوئی تھیں انکی  
 احتیاط کے ساتھ قرطاس پر لکھ کر ایک شیرازہ میں جمع کر دیا۔ یہ صحف ابو بکر کے پاس رکھ دیا گیا۔  
 حضرت عمر کے عہدِ خلافت میں جا بجا معلمین مقرر کئے گئے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور  
 کتابت سکھائیں بعض اہل علم صحابہ قرآن و سنت کی تعلیم کے لئے دیار و اقصاء میں بھیجے گئے  
 اور بیت المال سے ان کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔

حضرت عثمان کے زمانہ میں حذیفہ بن یمان نے جو آذربایجان کی لڑائی میں شریک تھے جب



نو مسلم اہل عجم کا قرآن سنا اور اس میں قرأت کے اختلافات دیکھے تو گھبرا کر عیلت کے ساتھ مدینہ میں آئے اور  
 خلیفہ سے کہا کہ جس طرح یہود و نصاریٰ نے اپنی اپنی آسمانی کتابوں میں اختلافات پیدا کر دیے ہیں مجھے  
 ڈر ہے کہ کہیں اسی طرح مسلمان بھی قرآن میں اختلافات نہ کر دیں ابھی وقت ہے جلد خبر لیجئے۔  
 حضرت عثمان نے وہی مصحف جو حضرت بلو بیک کے عہد میں لکھا گیا تھا اور جس کو حضرت عمر اپنی  
 وفات کے وقت اپنی بیٹی لم المؤمنین حضرت حفصہ کے حوالہ کر گئے تھے منگایا زید بن ثابت رضی اللہ  
 بن زبیر سعید بن عاص اور عبدالرحمن بن عمارت کو مقبول کیا کہ اس کو نقل کریں زید بن ثابت کے سوا  
 باقی تینوں شخص قریش میں سے تھے حضرت عثمان نے کہا کہ اگر تم لوگوں میں کسی لفظ کی کتابت  
 میں اختلاف واقع ہو تو قریش کی زبان کی رو سے فیصلہ کرنا کیونکہ یہی زبان رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم کی تھی اور اسی میں قرآن مجید اترتا ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے متعدد نسخے لکھ لئے تو ہر ہر  
 صوبے میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا اور حکم لکھا کہ اسی کے موافق قرأت رکھی جائے۔

اصل نسخہ ام المؤمنین حفصہ کے پاس واپس بھیج دیا۔

تعلیم قرآن و سنت کا سلسلہ عہد عثمانی میں بھی بدستور بلکہ زیادتی کے ساتھ جاری رہا۔ اعلیٰ کتب  
 یہدایت ہوتی تھی کہ وہ صحت اعراب کا لحاظ رکھیں علاوہ بی قرآن سمجھنے کیلئے عربی اشعار اور لغات کی تعلیم  
 ان کے عہد میں تفقہ قرآنی اور استنباط مسائل کا طریقہ لوگ مستند اور ممتاز صحابہ سے سیکھتے تھے۔  
 مگر عرب میں اسلام سے قبل سونے اور چاندی کے ایرانی اور رومی سکے رائج تھے آنحضرت صلی اللہ  
 علیہ وسلم اور خلیفہ اول کے وقت میں ہی سکے چلتے تھے جب ایران فتح ہو گیا تو ۱۸ھ میں حضرت  
 عمر کے حکم سے ایرانی سکے کے نمونے پر مختلف وزن کے درہم ڈھالے گئے نقوش میں تبدیلی

کر دیجی کسی پر الحمد للہ کسی پر لا الہ الا اللہ کسی پر محمد رسول اللہ اور کسی پر صرف عمر  
تھا حضرت عثمان کے عہد میں جو درہم ڈھالے گئے ان کا نقش "اشدا کبر" تھا۔

اشاعت اسلام | خلافت راشدہ میں عموماً ہر مسلمان تعلیم نبوی کا صحیح نمونہ اور پیکر اسلام تھا اس

لئے جہاں جہاں اہل اسلام پہنچتے تھے لوگ نہ صرف ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے  
بلکہ ان کے خلوص کو دیکھ کر اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ شام مصر عراق ایران کے  
باشندوں نے جب ان کے تقریبی نیکی و فاداری حسن معاملات اور سب سے بڑھ کر مخلوق کی بہداری

کو دیکھا تو دین اسلام کی غمگینوں کے قابل ہو کر اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور کثرت سے مسلمان ہو گئے۔

جنگ شام میں دمشق کا بطریق خود حضرت خالد کے ہاتھ پر اسلام لایا اس کو دیکھ کر جو

لوگ اس کے اثر میں تھے سب مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح مصر کا ایک رئیس شیطانی ہی

سے اسلام کا گرویدہ تھا جب اس کی فوج وہاں پہنچی تو وہ مع دو ہزار آدمیوں کے اسلام لایا۔

عراقی رئیسوں اور ایرانی مرزبانوں نے بھی تیزی سے اسلام کی طرف قدم بڑھایا تو

کے معرکے کے بعد چار ہزار وہابی ایک ساتھ مسلمان ہو گئے۔ جلولا کی فتح کے بعد وہاں کے اکثر

وہاں اسلام لائے حضرت عثمان کے عہد میں خراسان میں خاندان کے خاندان مسلمان ہو

گئے۔ اسی طرح افریقہ میں سرعت کے ساتھ اسلام پھیلا۔

الغرض یہ مسلمانوں کے خلوص اور ان کے اسلامی صفات کا اثر تھا کہ جہاں جہاں وہ گئے

ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ اس دین حق کے نور سے منور ہوتے چلے گئے۔

(تمام شد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# تاریخ الامت

جلد دوم

(دوسرا ایڈیشن)

خلافتِ اشرف

علامہ محمد حنیف صاحب

ایچ کردہ - ادارہ طلوع اسلام - ۲۵ - بی بی گنگ - لاہور  
کاپی - میزان پبلیکیشنز - ۲۷ - بی بی شاہ عالم مارکیٹ - لاہور